

ماہنامہ
ہمدرد نونہال
مارچ ۲۰۱۵ء



WWW.PAKSOCIETY.COM



تصویر خانہ ادارہ ۶۷
 اپنی کلہاڑی، اپنا پاؤں
 نونہال ادیب نغمے لکھنے والے ۷۷
 بیت بازی خوش ذوق نونہال ۸۷
 ہمدرد نونہال اسمبلی سید علی بخاری / رضوان قر ۸۸

بے جان چیزوں کے احساسات عبدالرحمان ۹۳
 سبق جاوید اقبال ۹۵
 شہری دفاع نسرین شاہین ۱۰۱
 کہانی بچے کی زبانی (دہم) شاعر لکھنوی ۱۰۳
 سبز ہلالی پرچم ام عادل ۱۰۶

آدھی ملاقات نونہال پڑھنے والے ۱۰۸
 جوابات معلومات افزا-۲۲۹ ادارہ ۱۱۳
 نونہال خبر نامہ سلیم فرخی ۱۱۶
 انعامات بلا عنوان کہانی ادارہ ۱۱۷
 نونہال لغت ادارہ ۱۲۰

تین نصیحتیں انوار آس محمد ۶۹
 ایک نافرمان بیٹے کی عبرت ناک کہانی، جس نے باپ کی بات نہ مانی

بلا عنوان انعامی کہانی انور فرہاد ۵۶
 اس عجیب و غریب کہانی کا عنوان بتا کر ایک کتاب حاصل کریں

ہمدرد نونہال مارچ ۲۰۱۵ عیسوی اس شمارے میں کیا کیا ہے؟

جاگو جگاد شہید حکیم محمد سعید ۳
 پہلی بات مسود احمد برکاتی ۵
 روشن خیالات نغمے لکھنے والے ۶
 حمد (نظم) عمران شائق ۷
 ورزش ضروری ہے ڈاکٹر سید اسلم ۸
 ایک سبق (نظم) ضیاء الحسن ضیا ۱۲
 یوم پاکستان (نظم) شمس القرمکاف ۲۱
 علم در پیچے کلمہ داں نونہال ۲۳
 معلومات ہی معلومات نظام حسین عیسیٰ ۲۷
 حلیم الہی زلفی سے ایک گفتگو سجاد درویش ۲۶
 بس تم سچ ہی بولو (نظم) شاہد حسین ۵۲
 ہنسی گھر نغمے مزاح نگار ۵۳
 معلومات افزا-۲۳۱ سلیم فرخی ۶۲
 نونہال مصور نغمے آرٹسٹ ۶۵
 مسکراتی لکیریں ادارہ ۶۶

جمعاتی

مسود احمد برکاتی

۱۱

ایک فقیر کی سبق آموز کہانی، جس کا دل بہت بڑا تھا۔ ایک منفرد تحریر

سکون کی تلاش

وقار حسن

۱۵

وہ سکون کی تلاش میں تھا، اسے سکون کہاں ملا؟ مزاحیہ تحریر

منی آرڈر

سمعیہ غفار عیسیٰ

۲۲

وہ پردیس جاتے ہی مر گیا، لیکن بچوں کے جوان ہونے تک رقم بھیجتا رہا

صلاحیت کی قدر نہ کرنا،
اپنا نقصان کرنا ہے۔

پہلی بات
مسعود احمد برکاتی

نونہال دوستو! نئے سال کا تیسرا شمارہ بھی حاضر ہے۔ اہم اور یادگار مہینا ہے۔ یہی تو وہ مہینا ہے جس کی ۲۳ تاریخ کو قرارداد پاکستان پیش اور مقبول ہوئی تھی۔ یہ قرارداد اصل میں ہندستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی دیرینہ آرزو کا اظہار تھی، جو وہ غلامی سے نجات کے بعد صحیح معنی میں اپنا آزاد ملک قائم کرنے کے لیے اپنے دلوں میں رکھتے تھے۔ اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے ملک کے بڑے بڑے مسلمان رہنماؤں نے مسلسل جدوجہد کی تھی اور قربانیاں دی تھیں۔ اس جدوجہد میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خاں جیسے پُر خلوص اور پُر جوش رہنما شامل تھے۔

قرارداد پاکستان جو پہلے قرارداد لاہور لکھی اور کہی جاتی تھی۔ قائد اعظم کی صدارت میں لاہور کے اجلاس میں ۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کو یہ قرارداد منظور ہوئی، اسے بنگال (موجودہ بنگلہ دیش) کے مولوی ابوالقاسم فضل الحق نے پیش کیا۔ اس کی تائید چوہدری خلیق الزماں نے کی، سر عبداللہ ہارون، نواب اسماعیل خاں، قاضی محمد عیسیٰ، بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اپنی تقریروں میں اس کی حمایت میں پُر جوش تقریریں کیں۔ ہم اس بارے میں اپنے جذبات اور معلومات نونہالوں کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں اور ان شاء اللہ کرتے رہیں گے۔

اس پاکستان کو ہمیں مشکلات، اختلافات اور پریشانیوں سے بچا کر سکون، امن اور ترقی کی راہ پر چلانا ہے۔ نونہالو! یہ خدمت آپ کریں گے اور پاکستان کو بہت پیارا پاکستان بنائیں گے۔

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۵ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

نونہالوں کے دوست اور ہمدرد
شاہد حکیم محمد سعید کی یاد رہنے والی باتیں

جاگو جگاؤ

دنیا میں جو نعمتیں انسان کو حاصل ہیں، ان میں شاید سب سے بڑی نعمت قناعت ہے۔ جو کچھ بھی کسی کو حاصل ہے، اگر وہ اس پر راضی ہو جائے تو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ قناعت کا یہی مطلب ہے کہ آدمی لالچ نہ کرے۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو ہر سہولت اور راحت حاصل ہے۔ ان کے لیے بڑے مکان، عمدہ لباس، آرام دہ سواری، عمدہ کھانے اور رپے پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، جن کو اس سے کم آسانیاں میسر ہیں، لیکن پھر بھی ان کو ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو اتنی آسانیاں بھی حاصل نہیں ہیں۔ ان کو اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ بڑی مشکل سے زندگی کی گاڑی کھینچتے ہیں، لیکن اکثر صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو سب سے زیادہ آسانیاں حاصل ہیں، وہ سب سے زیادہ غیر مطمئن اور پریشان رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دوسری سب نعمتیں تو ملی ہوئی ہیں، لیکن قناعت کی نعمت سے وہ محروم ہیں۔ گویا وہ نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اگر ان کو اتنی نعمتوں کے بجائے صرف قناعت کی نعمت میسر ہوتی تو وہ زیادہ خوش رہتے۔ خوش رہنے کا راز یہ ہے کہ جو کچھ اور جتنا کچھ حاصل ہے، اس سے زیادہ کا لالچ نہ کیا جائے، بلکہ ان لوگوں کو دیکھا جائے جن کو اتنا بھی میسر نہیں ہے۔ لالچ سے قناعت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ بے شک کوشش کرنا اور آگے بڑھنے کے لیے محنت کرنا اچھی بات ہے اور کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن محنت کے بغیر گھوٹنا اور جلنا اچھا نہیں۔ پہلے آدمی کوشش کرے، پھر خواہش کرے۔ اگر اس کی نظر میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کو محنت اور اہلیت کے بغیر سہولتیں اور راحتیں میسر ہیں، تب بھی اس کو جلنے کے بجائے محنت اور کوشش سے اپنے آپ کو زیادہ اہل اور قابل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محنتی اور ماہر آدمی اپنی زندگی بھی اچھی بنا سکتا ہے اور پاکستان کی بھی سچی خدمت کر سکتا ہے اور پاکستان میں دیر سویر ایسے ہی آدمیوں کا بول بالا ہوگا۔ ان شاء اللہ۔

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۴ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

حمد باری تعالیٰ

دکھ دکھ منظر سارے
اس کی قدرت کے ہیں نظارے

دریا ، سمندر ، پہاڑ بنائے
طرح طرح کے پھول کھلائے

صحرا اُس کے ، جنگل اُس کے
دور اُفق پر بادل اُس کے

چاند اور سورج اُس نے بنائے
تارے فلک پر خوب سجائے

گرمی ہو یا ہو وہ جاڑا
ہر موسم ہے اس کا پیارا

لب پہ رکھو بس اُس کا نام
ذکر یہی ہو صبح و شام

اُس نے سب کچھ پیدا کیا ہے
وہ ہی تیرا ، میرا خدا ہے



کہ مشعل کس کے ہاتھ میں ہے۔

مرسلہ : اُسامہ ظفر راجا، جہلم

جبران خلیل جبران

ہر عمل کھوکھلا ہے، جب تک محبت نہ ہو۔

مرسلہ : کول فاطمہ اللہ بخش، لیاری

فیما غورس

محبت، غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔

مرسلہ : اریبہ انصاری، کراچی

سائرس اعظم

دوسروں کو تو معاف کر دیا کرو، لیکن اپنے آپ کو کبھی

نہ معاف کیا کرو۔ مرسلہ : عائشہ محمد خالد قریشی، سکھر

برنارڈ شا

بغیر سوچے سمجھے کسی کی نقل کرنا بے عقلی ہے۔

مرسلہ : شائم عمران، نارنگھ کراچی

ایڈیسن

مجھے خوشی ہے کہ میں نے نقل کرنے والا کوئی آلہ ایجاد

نہیں کیا۔ مرسلہ : سعید گل محمد روشن، کراچی

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

جو شخص اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے، اسے

اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔

مرسلہ : نعت ناصر، فیصل آباد

حضرت علی کرم اللہ وجہہ

خوب صورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر

اخلاق کی کمی کو خوب صورتی کبھی پورا نہیں کر سکتی۔

مرسلہ : نام پتانا معلوم

حضرت شیخ سعدیؒ

بوجھ اٹھانے والا گدھا، لوگوں کو ستانے والے

انسان سے بہتر ہے۔

مرسلہ : ارسلان اللہ خان، حیدرآباد

مولانا محمد علی جوہر

انسان کی بے غرض خدمت کرنا انسانیت کی

معراج ہے۔ مرسلہ : قمرناز دہلوی، کراچی

رابندر ناتھ ٹیگور

سچائی کی مشعل جہاں جلتی نظر آئے، اس کی

روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے

ورزش ضروری ہے

ڈاکٹر سید اسلم

دنیا میں ابتدائی زمانے سے انسان سختی اور جفاکشی کا عادی رہا ہے۔ درختوں کو کاٹنا، گرانہ، چیرنا، کنویں کھودنا، شہ سواری اور زراعت وغیرہ اس کے مشغلے رہے ہیں۔ کروڑوں برس سے انسان جس طرح اپنے اعضا سے کام لے رہا ہے، اُن کو یکا یک تبدیل نہیں کیا جاسکتا اور کیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں زد پڑے گی، اس لیے ڈبے کی مرغیوں کی طرح زندگی گزارنا خلاف فطرت ہے۔

ورزش زندگی باقی رکھنے کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح ہوا، پانی، غذا اور نیند۔ یہ بات دل چسپی سے پڑھی جائے کہ ایک تن درست آدمی کو ایک ہفتے کے لیے بستر پر لٹا دیا جائے تو اس کی طاقت اس قدر زائل ہو جائے گی کہ اسے اپنی پہلی حالت پر آنے کے لیے تین ہفتے درکار ہوں گے۔ ورزش سے غذا ہضم ہوتی ہے۔ وزن مناسب ہو کر برقرار رہتا ہے۔ اسی وجہ سے ورزشی لوگ خوش خوراک ہونے کے باوجود تن درست رہتے ہیں۔ ورزش دل کو جس قدر قوت پہنچاتی ہے، اس قدر قوت کسی چیز سے نہیں پہنچتی، نہ ڈاکٹر، حکیم کی دواؤں سے اور نہ جراح (سرجن) کے نثر سے، کیوں کہ ورزش سے متبادل رگیں قدرتی طریقے پر حاصل ہوتی ہیں۔

تن درست آدمی کو کسی بھی روزش سے نقصان نہیں پہنچتا۔ جن مشہور لوگوں نے بڑی عمریں پائی ہیں، مثلاً مولوی عبدالحق، مولانا غلام رسول مہر وغیرہ یہ سب صبح ہوا خوری کے عادی تھے۔ جوش ملیح آبادی صاحب صبح کو اس قدر ورزش کر لیتے تھے کہ

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۸ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

پینا گرنے لگتا تھا۔ وہ اپنے زمانے کے سب سے طویل العمر شاعر تھے۔ یہ ضروری ہے کہ ہر عمر، موسم اور زمانے میں جسمانی مشقت کی ترغیب اور ترویج کی جائے، کیوں کہ ورزش سے فرحت اور تازگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ جو لوگ پریشان و مضطرب ہوتے ہیں، ان میں خوش دلی آتی ہے، حوصلہ، اُمید اور اعتماد بڑھتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ورزش سے عمر میں اضافہ ہونہ ہو اس سے زندگی کو توانائی ضرور ملتی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ورزش سب سے اچھی خواب آور (نیند لانے والی) شے ہے۔

ورزش شروع کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ورزش نہ صرف موزوں ہو، بلکہ اس میں پابندی اور باقاعدگی ہو، قابل عمل ہو، بے خطر ہو اور ورزش کرنے کا ضروری سامان موجود ہو۔ موسم، مزاج اور ماحول کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ ورزش کے لیے ضروری ہے کہ متحرک ہو، یعنی رفتار اور حرکت ہو اور جسم کے بڑے پٹھوں کا خاطر خواہ استعمال ہو، تاکہ خون کی گردش سے زور اور قوت پیدا ہو۔ یہ ضروری ہے کہ ورزش میں ٹانگیں بھر پور حصہ لیں، کیوں کہ ٹانگوں کے پٹھوں کی حرکت سے خون کی روانی دل کی طرف ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے دوران خون میں بازوؤں سے زیادہ اہم ٹانگیں ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک دل ٹانگوں میں بھی ہے۔

ورزش کو ہمت کے مطابق رفتہ رفتہ اس قدر بڑھایا جائے کہ وہ اچھی معلوم ہو اور چہل قدمی بڑھ کر تیز قدمی ہو جائے۔ ایک گھنٹے میں تین میل کا فاصلہ طے کر لیا جائے۔ دوسری ورزشوں میں سائیکل چلانا، تیراکی، گھڑ سواری، باغ بانی، میٹھیوں

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۹ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

جمعراتی

مسعود احمد برکاتی

وہ ہر جمعرات کو آتا اور قانیہ اس کو ایک روپیہ دے دیتی۔ مانگنے والے تو روز ہی آتے ہیں۔ صدا دیتے ہیں۔ طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں۔ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ فاقوں کی داستان سناتے ہیں، لیکن وہ ان سب سے الگ تھا۔ کم بولتا تھا اور بس ایک آواز نکالتا تھا: ”اللہ خوش رکھے۔“

وہ دوسرے فقیروں کی طرح پھیلی گلی میں بھی نہیں آتا تھا، بلکہ سامنے کے دروازے پر آتا اور درد بھرے لہجے میں اللہ خوش رکھے کہہ کر خاموش کھڑا ہو جاتا۔ قانیہ نے اس کو پہلی بار دیکھا تو وہ ایک مظلوم سا انسان نظر آیا۔ قانیہ نے ایک روپیہ لا کر اس کو دے دیا۔ بس اس روز سے یہ دستور ہو گیا کہ وہ ہر جمعرات کو آتا، صدا لگاتا، قانیہ جلدی سے روپیہ لا کر دیتی اور وہ ایک بار پھر اللہ خوش رکھے کہہ کر چلا جاتا۔ وہ کسی دروازے پر زیادہ دیر نہیں رکتا۔ اگر تھوڑی دیر تک کوئی نہیں آتا تو وہ چپ چاپ آگے بڑھ جاتا۔

ایک دن قانیہ کی بڑی بہن ناہید نے کہا: ”قانیہ! اس فقیر میں کیا خاص بات ہے کہ تم اس کو ہر جمعرات کو ایک روپیہ دیتی ہو۔ کسی دوسرے کو دیتی بھی ہو تو صرف ۲۵ پیسے۔“ ان کے ابو بھی سن رہے تھے۔

انہوں نے کہا: ”بھئی، ہماری بیٹی کی طبیعت میں ہمدردی ہے۔ وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے۔ کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔“

ناہید نے کہا: ”ابو! میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ قانیہ دوسرے مانگنے والوں کو تو پچیس پیسے پر ٹرخا دیتی ہے، لیکن جمعراتی کو ایک روپیہ دیتی ہے اور وہ بھی ہر ہفتے۔“

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۱۱ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

چڑھنا اور ایک جگہ کھڑے کھڑے دوڑ لگانا شامل ہیں۔ ورزش اس وقت کی جائے جب معدہ خالی ہو اور کھانا کھائے ہوئے کم از کم چار گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہوں۔ بہتر ہے کہ علی الصبح نہار منہ ورزش کی جائے۔ ورزش کے شروع میں ۳-۳ منٹ تک آہستہ آہستہ اچھل کر اپنے جسم کو گرم کیا جائے۔ ورزش سے نبض اور سانس کی رفتار دونوں میں تیزی آ جاتی ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ جسم کا تمام نظام متحرک ہو گیا ہے اور یہ رفتار ورزش ختم کرنے کے تین منٹ بعد اپنی اصلی حالت پر آ جانا چاہیے۔ ورزش جب ختم کے قریب ہو تو اس کو ایک دم ختم نہیں کر دیں، بلکہ کچھ وقت جسم کو ٹھنڈا ہونے کے لیے بھی دیں، تاکہ جسم کا ایک حرکت سے سکون میں نہ آ جائے۔

ورزش ہفتے میں کم سے کم تین دفعہ اور زیادہ سے زیادہ چھ دفعہ کی جائے۔ اگر ورزش زوردار ہو تو پندرہ منٹ، اگر آرام سے کی جائے تو ایک گھنٹے تک ہونا چاہیے، یعنی چہل قدمی تین میل فی گھنٹے کی رفتار سے ایک گھنٹے تک، تیز قدمی جس میں ہلکی دوڑ لگائی جائے، بیس منٹ اور سخت اور زوردار دوڑ جس میں پینا آ جائے، سانس چڑھ جائے، دل کی رفتار تیز ہو جائے یا ہلکی سی تھکن ہو جائے ۸ سے ۱۲ منٹ کی جائے۔ وقت ہو تو چہل قدمی، جو تیز رفتاری سے کی جائے، سب سے اچھی ورزش ہے، لیکن سب سے مناسب، قابل عمل اور سستی ورزش یہ ہے کہ گھر کے کسی گوشے میں کھڑے کھڑے سائیکل چلائیں یا ایک جگہ کھڑے ہو کر دوڑ لگائیں، یعنی ایک مقام پر کھڑے ہو کر اچھلیں، کودیں۔

☆ بچوں میں شروع ہی سے ورزش کی عادت ڈالنی چاہیے۔

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۱۰ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

WWW.PAKSOCIETY.COM

پر پہنچی: ”لو چا چا! آج آخری بار دے رہی ہوں۔“

”کیوں بیٹی! اللہ خوش رکھے، کیا بات ہوئی؟“

قانیہ کا دل بھر آیا۔ روتے روتے ہچکیاں بندھ گئیں۔ بڑی مشکل سے اس نے بتایا کہ میرے ابو ہوائی جہاز کے حادثے میں ختم ہو گئے۔ اب ہمارا کون ہے۔ معلوم نہیں کیسے کام چلے گا۔“

چاچا نے قانیہ کی باتیں بڑی توجہ سے سنیں۔ ایک آہ بھری اور تھوڑی دیر خاموش کھڑا رہا، پھر ”اللہ بڑا بادشاہ ہے“ کہتا ہوا چلا گیا۔

مغرب کے بعد دروازے پر پھر آواز آئی: ”اللہ خوش رکھے۔“

پہلے تو قانیہ کو یقین نہیں آیا کہ چاچا اس وقت کہاں؟ وہ تو صبح ہی آتے ہیں۔ پھر وہ آج ہی تو آئے تھے۔ ایک دن میں دو بار تو کبھی نہیں آئے۔ یہ سوچ رہی تھی کہ دوبارہ اللہ خوش رکھے کی آواز آئی۔ اب قانیہ نے سوچا کہ ضرور کوئی شریر لڑکا چاچا کی آواز بنا رہا ہے، ورنہ چاچا نے تو کبھی ایک صدی سے دوسری صدی نہیں دی۔ پھر بھی حیرت اور جستجو اس کو دروازے پر لے گئی۔ اس کی حیرت اور بڑھ گئی۔ کوئی شریر لڑکا نہیں تھا، خود چاچا ہی تھا۔ وہ قانیہ کو دیکھ کر بولا: ”بیٹی! کوئی کسی کو نہیں دیتا، دولت کسی کی ہو کر نہیں رہتی۔ آج اس کے پاس، کل اس کے پاس۔ دل غریبوں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اللہ خوش رکھے۔“

یہ کہہ کر چاچا نے ایک پوٹلی جیب سے نکالی اور قانیہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس سے پہلے کہ قانیہ کچھ سمجھ سکتی۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا دور نکل گیا۔ قانیہ نے دیکھا پوٹلی میں نوٹوں کی گڈیاں بھری ہوئی تھیں۔

☆
(یہ کہانی پہلے ۱۹۸۶ء میں چھپی تھی)

WWW.PAKSOCIETY.COM
RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۱۳ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

ابو نے پوچھا: ”کون جمعراتی؟“

ناہید نے اس فقیر کا پورا حال بتایا تو ابو بولے: ”بات یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر انسان کے دل میں ہمدردی کا جذبہ زیادہ بیدار ہوتا ہے اور کسی کو دیکھ کر کم یا بالکل نہیں۔ قانیہ کو اس شخص سے زیادہ ہمدردی ہو گئی ہے۔“

ابو کی بات صحیح تھی۔ قانیہ کے دل میں درد تھا۔ وہ کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی تھی اور فوراً اس کی مدد کو تیار ہو جاتی تھی۔ اس نے کہا: ”دیکھیے ابو! باجی نے اس آدمی کو کتنا برا نام دیا ہے، جمعراتی۔“

ناہید نے تڑخ کر جواب دیا: ”تو کیا میں اس کو نواب صاحب کہوں! وہ جمعرات کو آتا ہے، اس لیے میں نے جمعراتی نام رکھ دیا۔ کون سی توہین ہو گئی۔“

ابو نے دونوں کو سمجھایا کہ بحث نہیں کرتے۔ ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا اور غور کرنا چاہیے۔ بحث میں ضد ہو جاتی ہے اور صحیح بات بھی غلط معلوم ہوتی ہے۔ چلو آؤ کھانا کھا لو، تمھاری امی بنا رہی ہیں۔“

چند دن بعد قانیہ کے ابو کو تجارتی دورے پر ہانگ کا نگ جانا پڑا۔ وہ خوش و خرم سب سے مل کر روانہ ہوئے تھے، لیکن چند گھنٹوں بعد ریڈیو نے یہ افسوس ناک خبر دی کہ کراچی سے ہانگ کا نگ جانے والا جہاز حادثے سے دوچار ہو گیا۔ تمام مسافر ہلاک ہو گئے۔

قیامت ٹوٹ پڑی۔ سب سے زیادہ کم زور دل قانیہ ہی کا تھا۔ اس نے روتے روتے بُرا حال کر لیا۔ کئی دن کے بعد کچھ صبر آیا۔

اگلی جمعرات کو صبح معمول کے مطابق جمعراتی کی آواز آئی: ”اللہ خوش رکھے۔“

قانیہ مرے دل سے اٹھی۔ الماری کھولی۔ پرس نکالا اور ایک رپیہ لے کر دروازے

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۱۲ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

سکون کی تلاش

دقار محسن

اس دنیا میں ہر آدمی سکون کی تلاش میں ہے۔ کوئی جنگل بیابان کا رخ کرتا ہے، کوئی نیند کی گولیوں کا سہارا لیتا ہے۔ کوئی موسیقی میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی قدرتی مناظر میں سکون ڈھونڈتا ہے۔ کریم بخش بھی سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ وہ گھر میں بیوی بچوں کے شور غل سے جب بہت عاجز آ جاتا تو ندی کے پل پر جا کر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں لہروں کو تکتا رہتا۔ ایک دن انھوں نے پیش امام تبارک علی سے اپنی تکلیف بیان کی اور مشورہ مانگا۔ تبارک علی نے کہا: ”میاں! سنا ہے، پڑوس کے گاؤں کیسرجنگ میں ایک تجربہ کار حکیم ہیں، جو ”حکیم پُر سکون“ کے نام سے مشہور ہیں، ان سے مشورہ کر لو۔ اگلے دن کریم بخش اپنے گدھے پر سوار ہو کر حکیم صاحب کے مطب پہنچ گئے۔ حکیم صاحب گاؤں کے سے ٹیک لگائے سکون سے خراٹے لے رہے تھے۔ کریم بخش کے کھانسنے کی آواز سے چونک کر آنکھیں کھولیں اور اسی انداز میں لیٹے لیٹے اس کی نبض دیکھ کر بولے:

”سکون چاہیے؟“

”جی سرکار!“ کریم بخش نے کہا۔

”کتنا؟“

”جی جی..... بہت سا..... یعنی مکمل۔“

”تو پھر چار لوگوں کو لے کر آؤ۔“

”وہ کیوں جناب؟“


ضیاء الحسن ضیا

ایک سبق

روشنی چار سمت پھیلائیں
ہم اندھیروں میں چاند بن جائیں
لوگ سیراب ہوں اجالے سے
اپنی کرنیں جہاں پہ برسائیں
دور کر دیں خزاں کے ظلم و ستم
گلستاں میں بہار لے آئیں
خارزاروں میں خوشبوئیں بھر دیں
سارے مُردہ دلوں کو مہکائیں
ساری دنیا وطن ہمارا ہے
کیوں نہ اپنے خدا کے گن گائیں
ہمیں اسلام جاں سے پیارا ہے
آؤ قرآن سے رہبری پائیں
متحد کر دیں سارے لوگوں کو
پرچم اتحاد لہرائیں
دے کے اُلفت کا درس سب کو ضیا
نفرتوں کی فصیل کو ڈھائیں

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۱۳ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۱۵ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی



حکیم صاحب انگڑائی لے کر بولے: ”گھر میں گدھا ہے؟“

کریم بخش کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا: ”حکیم صاحب میرے علاوہ کوئی نہیں۔“

”جاؤ آج ہی ایک تندرست گدھے کا انتظام کرو۔“

کریم بخش نے بھولو دھوبی سے ایک گدھا خرید لیا۔ اب رات کو مرغے، کتے اور گدھے نے جوغل مچانا شروع کیا تو محلے والے اکٹھے ہو گئے اور کہا: ”کریم بخش! تم نے اپنے ساتھ ساتھ ہمارا سکون بھی غارت کر دیا..... فوراً ان جانوروں کو یہاں سے نکالو۔“

کریم بخش پھر حکیم صاحب کے پاس پہنچے اور روداد سنائی۔

”بھئی مکمل سکون تو نہر کے پل پار والے قبرستان میں ہی مل سکتا ہے۔“
 ”نہیں جی! اتنا نہیں، بس میں گھر میں بیوی بچوں کے غل غپاڑے سے پریشان ہوں۔ ایک منٹ سکون سے نہیں گزرتا۔“

”گھر میں مرغا ہے؟“ حکیم صاحب نے پوچھا۔

”نہیں، مگر کیوں؟“ کریم بخش نے اس بے ٹکے سوال کو سن کر کہا۔

”آج ہی لے لو اور بس اب بھاگ جاؤ۔“ اتنا کہہ کر حکیم صاحب پھر خرائے لینے لگے۔

کریم بخش نے واپسی پر منڈی سے ایک مرغا خرید لیا۔ بچے تو مرغا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کے ساتھ کھیلنے میں اور زیادہ شور کرنے لگے۔ دودن میں مرغے نے وقت بے وقت اذان دے کر کریم بخش کو عاجز کر دیا۔ وہ پھر حکیم صاحب کے پاس پہنچا اور ساری روداد سنائی۔

حکیم صاحب نے اونگھتے ہوئے پوچھا: ”گھر میں کتا ہے؟“

”نہیں، کیوں؟“ کریم بخش نے حیرت سے پوچھا۔

”جاؤ آج ہی بندوبست کرو کتے کا۔“ اتنا کہہ کر حکیم صاحب سکون سے چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔

غریب کریم بخش نے سلیمان پہلوان سے ایک کتا خریدا اور گھر چل دیا۔ بچے کتا دیکھ کر اور خوش ہوئے۔ اب کتا اور مرغا دونوں مل کر شور مچاتے۔ گھر میں طوفان برپا رہتا۔ کریم بخش کا رہا سہا سکون بھی غارت ہو گیا۔ بے چارہ پھر حکیم صاحب کے پاس حاضر ہوا اور رو کر اپنی پیتا سنائی۔

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۱۶ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

ماہنامہ ہمدرد نونہال

۱۷



وحشت ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب علاج ختم ہو گیا، آخری بار حکیم صاحب سے مل لے۔ اس بار حکیم صاحب بہت تروتازہ سفید شیردانی اور مخمل کی سیاہ ٹوپی سر پر سجائے بہت خوش خوش چاندنی پر بیٹھے تھے۔ جب کریم بخش نے گھر کے پُر سکون حالات سے آگاہ کیا تو حکیم صاحب نے مسکرا کر کہا: ”اب تم ایک آخری کام اور کر لو..... وہ یہ ہے کہ بیوی کو بچوں کے ساتھ میسج بھیج دو۔ ان سے بھی پیچھا چھڑاؤ۔“ یہ سن کر تو کریم بخش غصے کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے چیخ کر کہا: ”حکیم صاحب! اب تک میں آپ کے لحاظ میں کچھ نہیں بولا۔ اب آپ نے بے تلکے مشوروں کی حد کر دی۔ میں ہرگز اپنے بیوی بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سارا سکون

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۱۹ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

”گدھا واپس کر دو۔“ حکیم صاحب نے حکم دیا اور کروٹ لے کر خرائے لینے لگے۔

کریم بخش نے واپس آ کر ادھی قیمت پر گدھا بھولو کو واپس کر دیا۔ گدھے کے جانے سے اگلے دن اس کو کافی اچھی نیند آئی اور کچھ سکون میسر آیا۔ اگلے دن اس نے حکیم صاحب کو یہ خوش خبری سنائی۔

”کتے سے بھی پیچھا چھڑاؤ۔“ حکیم صاحب خمیرہ گھونٹتے ہوئے بولے۔

”نہیں حکیم صاحب! بچے کتے سے مانوس ہو گئے ہیں۔ مجھے بھی کھیت پر اس کی موجودگی سے آرام ہے۔“

”کہہ جو دیا کتے سے پیچھا چھڑاؤ۔“ حکیم صاحب زور دے کر بولے۔

کتے کے جانے کے بعد تو کریم بخش کو سناٹا سا محسوس ہونے لگا۔ سکون کچھ زیادہ ہو گیا تھا۔ اس نے صورت حال حکیم صاحب کو جا کر سنائی۔

”مرغے کو بھی حلال کر ڈالو۔“ حکیم صاحب نے مشورہ دیا۔

اب تو کریم بخش سے برداشت نہیں ہوا اور وہ چیخا:

”حکیم صاحب یہ نہیں ہو سکتا۔ مرغے سے گھر میں سب محبت کرتے ہیں۔

جس دن وہ اذان نہیں دیتا، لگتا ہے دن ہی نہیں نکلا۔“

”ابھی تمہارا علاج مکمل نہیں ہوا۔ جیسا ہم کہتے ہیں دیا کرو۔ مرغے کا جانا

ضروری ہے۔“ حکیم صاحب نے سختی سے کہا۔

مرتا کیا نا کرتا۔ بے چارے کریم بخش نے مرغے سے بھی پیچھا چھڑا لیا۔

اب اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ گھر کی خاموشی سے اس کو

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۱۸ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

اور خوشیاں ان ہی کے دم سے تو ہیں۔ اگر ایک دن کے لیے بیوی بچے چلے جاتے ہیں تو مجھے گھر کی خاموشی کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ اب میرے گھر میں مکمل سکون ہے۔ اب میں آپ کے کسی مشورہ پر عمل نہیں کروں گا۔“

یہ سن کر حکیم صاحب نے کریم بخش کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ پھر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر کہا: ”کریم بخش! میری یہ تمام باتیں تمہارے علاج کا حصہ تھیں۔ تمہیں اس حقیقت کا احساس ہی نہیں تھا کہ سکون انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے اندر سکون تلاش کرتا ہے، وہی زندگی میں کامیاب اور مطمئن رہتا ہے۔ جاؤ، اب اپنے بچوں کے ساتھ سکون و آرام سے زندگی بسر کرو۔“ ☆

ہمدردنوںہمال اب فیس بک پیج پر بھی

ہمدردنوںہمال تمہارا پسندیدہ رسالہ ہے، اس لیے کہ اس میں دل چسپ کہانیاں، معلوماتی مضامین اور بہت سی مزے دار باتیں ہوتی ہیں۔ پورا رسالہ پڑھے بغیر ہاتھ سے رکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ شہید حکیم محمد سعید نے اس ماہ نامے کی بنیاد رکھی اور مسعود احمد برکاتی نے اس کی آب یاری کی۔ ہمدردنوںہمال ایک اعلیٰ معیاری رسالہ ہے اور گزشتہ ۶۳ برس سے اس میں لکھنے والے ادیبوں اور شاعروں کی تحریروں نے اس کا معیار خوب اونچا کیا ہے۔

اس رسالے کو کمپیوٹر پر متعارف کرانے کے لیے اس کا فیس بک پیج (FACE BOOK PAGE) بنایا گیا ہے۔

www.facebook.com/hamdardfoundationpakistan

ماہنامہ ہمدردنوںہمال // ۲۱ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی



اور کیا چاہیے!
پھر کیسی سردی کیسا جاڑا
گرم دودھ میں رُوشالزپک...!

رُوشالزپک

Roshalzapk

”نہیں بیٹا! ایسی بات نہیں ہے۔ ان پر کام کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا، پھر نئی جگہ کو سمجھنے میں بھی تو وقت لگتا ہے۔“ میمونہ نے گڑیا کو بہلانے کی کوشش کی۔
 ”امی! آپ فکر نہ کریں میں بڑا ہو کر ابا کے کام کا بوجھ کم کر دوں گا اور ان کا ہاتھ بناؤں گا۔“ حسن نے ماں کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر کہا۔



صبح سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ دونوں بچے اسکول جانے کی تیاری کر رہے تھے اور میمونہ ان کے لیے ناشتا بنا رہی تھی۔ گڑیا نے کہا: ”امی! ٹیچر نے فیس مانگی ہے۔“
 ”اور میری بھی۔“ حسن نے بھی کہا۔

”ہاں ہاں مل جائے گی تم فکر نہ کرو۔“ میمونہ نے کہہ کر دیا، لیکن سوچ میں
 ماہنامہ ہمدرد نوںہال // ۲۳ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

منی آرڈر

سمعیہ غفار



”پوسٹ میں آیا ہے حسن! جا کر دیکھو تو سہی تمہارے ابا کا کوئی خط تو نہیں آیا ہے۔“ پوسٹ میں کی آواز سنتے ہی میمونہ نے اپنے بیٹے حسن کے ہاتھ سے لٹولیتے ہوئے کہا۔

”امی! پوسٹ میں آیا تو ہے، لیکن ابرار انکل کے گھر۔ اگر ہمارے گھر آتا تو ہمارا دروازہ بجاتا۔“ حسن نے جھلا کر کہا۔

”امی! ابا ہمیں خط کیوں نہیں لکھتے! کیا وہ ہمیں بھول گئے ہیں؟“ گڑیا نے معصومیت سے سوال کیا۔ گڑیا، حسن سے دو سال چھوٹی تھی۔

ماہنامہ ہمدرد نوںہال // ۲۲ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ سپریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کپیرینڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریسی
- ✦ ایڈ قری لٹس، لٹس کو ایسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیا جاتا
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو مائبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر پو پو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریسی
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب فورٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

✦ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

✦ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں www.paksociety.com

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan

Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

پڑگئی کہ فیس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟

دوپہر کے وقت دونوں بچے اسکول سے گھر واپس آئے اور کپڑے بدل کر کھانا کھانے بیٹھے تو میمونہ سوچنے لگی کہ اب وہ فیس کی کوئی بات ضرور کریں گے۔ اسی وقت پوسٹ مین نے آواز لگاتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔

حسن نے دروازہ کھولا اور پوسٹ مین کو سلام کیا۔

”وعلیکم السلام بیٹا! مبارک ہو منور صاحب کا منی آرڈر آیا ہے۔ جلدی سے

اپنی امی کو بلا لو، دستخط کروانے ہیں۔ پوسٹ مین نے کہا۔

”منی آرڈر؟ ابا کا؟ امی جلدی آئیں، ابا نے منی آرڈر بھیجا ہے۔“ حسن

نے وہیں سے چلانا شروع کر دیا۔

”یہ لیجیے بہن! یہاں دستخط کر دیجیے۔ پوسٹ مین نے دستخط کروا کے پیسے

اور خط میمونہ کے حوالے کیا اور چلا گیا۔

”حسن بیٹا! ذرا یہ خط تو پڑھ کر بتاؤ کہ کیا لکھا ہے؟“ میمونہ نے خط حسن کی

طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

”اس میں لکھا ہے کہ میں یہاں خیریت سے پہنچ گیا ہوں۔ کام سمجھنے میں اتنا

وقت لگ گیا، اس لئے چٹھی اور پیسے نہیں بھیج پایا۔ اب ہر مہینے باقاعدگی سے تمہیں پیسے

مل جایا کریں گے۔ حسن اور گڑیا کو خوب پڑھانا لکھانا اور ان کا بہت خیال رکھنا۔ کسی

چیز کی کمی نہ ہونے دینا اور پریشان بالکل بھی مت ہونا۔ گڑیا کے لیے ابھی سے جہیز

جوڑنا شروع کر دو۔ بہت دھوم دھام سے اس کی شادی کرنا۔ ابھی کام نیا نیا ہے،

اس لیے آنے کی اجازت نہیں ملے گی۔“ حسن نے اٹک اٹک کر میمونہ کو پورا خط پڑھ

ماہنامہ ہمدرد، نومبر ۲۵ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی



میرا نام رضوان ہے۔“ اس شخص نے اس طرح اپنی بائیں حسن کے گلے میں ڈالیں جیسے وہ اسے کئی سالوں سے جانتا ہو۔

”رضوان صاحب! ابا کہاں ہیں؟“ حسن نے گھر میں داخل ہوتے ہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔

”ابھی تو تم آرام کرو شام کو بات کریں گے۔“ رضوان صاحب نے حسن کو ایک شان دار کمرے میں لے جا کر کہا۔

شام کو حسن نے رضوان صاحب سے پھر اپنے ابا سے متعلق سوال کیا۔ اس پر

رضوان صاحب نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنا شروع کیا: ”آج سے برسوں پہلے میں اپنے اکلوتے بیٹے کے بہتر مستقبل کے لیے پاکستان سے یہاں آیا تھا۔ میں نے چھوٹے سے کاروبار سے ابتدا کی، جس میں اللہ نے مجھے برکت دی اور میں ترقی کرتا چلا گیا۔ میں ہر مہینے اپنے گھر معقول رقم بھیجتے لگا۔ چھ مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ایک

روز حسب معمول میں کام پر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ ٹیلے فون کی گھنٹی بجی۔ مجھے

پہلے ہی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ پتا چلا کہ میری بیوی اور میرا بیٹا

ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئے ہیں اور اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ خبر مجھ پر بجلی

بن کر گری۔ میں نے گاڑی نکالی اور اتر پورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ گاڑی کی رفتار

بہت تیز تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اتنے میں

ایک آدمی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ میں اسے بچا نہ سکا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ

دھو بیٹھا۔ اس کا دوست بھی ساتھ تھا، وہ مجھے پولیس اسٹیشن لے گیا۔ کئی روز قانونی کارروائی

میں لگ گئے اور میں پاکستان جا کر اپنی بیوی اور بیٹے کا آخری دیدار تک نہ کر سکا۔

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۲۷ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

کر سنایا۔ بچے اور میمونہ بہت خوش تھے، کیوں کہ ہر مہینے باقاعدگی سے خط اور منی آرڈر مل جاتا تھا، جس سے گھر کا خرچ اچھی طرح چلنے لگا۔ اسی طرح سال پر سال گزرتے چلے گئے، لیکن منور صاحب ایک بار بھی گھر نہیں آئے۔ میمونہ کے بال سفید ہو گئے۔ اور حسن اور گڑیا دونوں جوان ہو گئے۔ حسن اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا چاہتا تھا اور تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔

”امی! میری ساری تیاری مکمل ہو گئی ہے۔ تمام سامان، کاغذات اور ابا کا پتا سنبھال کر رکھ لیا ہے۔ جب وہاں جاؤں گا تو ابا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ میں انھیں چونکا دینا چاہتا ہوں۔ میں ابا کے پاس جا کر ان کی آپ سے بات بھی کر اؤں گا۔ آپ انتظار کیجیے گا۔ اچھا امی میں اب چلتا ہوں اپنا اور گڑیا کا خیال رکھیے گا۔ اور گڑیا تم دل لگا کر پڑھائی کرنا اور امی کا خیال رکھنا۔“ حسن ماں اور بہن سے مل کر اتر پورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔

کئی گھنٹے کے سفر کے بعد آخر وہ منزل پر پہنچ گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی امی کو فون کر کے اپنے پہنچنے کی اطلاع دی، پھر ٹیکسی روک کر کاغذ پر لکھے پتے پر چلنے کو کہا۔ تھوڑی دیر میں وہ مطلوبہ مقام پر پہنچ گیا۔ حسن نے ٹیکسی سے اتر کر ارد گرد کا جائزہ لیا اور دروازے کے پاس لگی گھنٹی کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا شخص دروازے پر آیا جو شکل و صورت سے پاکستانی معلوم ہوتا تھا۔

”میرا نام حسن ہے۔ مجھے منور صاحب سے ملنا ہے، میں ان کا بیٹا ہوں۔“ حسن نے سلام کرتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔

حسن بیٹا! اندر آؤ۔ ماشاء اللہ کتنے بڑے ہو گئے ہو اور سب ٹھیک تو ہے نا؟

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۲۶ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

اس واقعے کے بعد میں پھر کبھی پاکستان نہیں گیا، دل ہی نہیں چاہا۔ اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ وہ مرنے والا تمہارا باپ تھا۔ میں نے انہیں اپنا رشتے دار ظاہر کر کے ان کی تدفین یہیں کر دی۔“

حسن کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ رضوان صاحب نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دی اور کہا: ”تمہارے والد کے دوست نے مجھے ان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ منور اپنے گھر کا واحد سہارا اور کفیل تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ منور کے گھر والوں کو اس کی موت کی خبر مت دینا، ورنہ وہ لوگ جیتے جی مرجائیں گے۔ اس نے میری بات مان لی اور ایسا ہی کیا۔“ رضوان صاحب کہتے کہتے رک گئے۔

”تو پھر وہ منی آرڈر اور خط؟“ حسن نے پوچھا۔

”میں اپنی بیوی اور بیٹے کے لیے یہاں آیا تھا۔ آج میرے پاس دولت تو بہت ہے، لیکن اسے خرچ کرنے والے نہیں رہے، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں منور کے روپ میں تمام گھریلو اخراجات کے ساتھ ساتھ تم دونوں کی تعلیم کا خرچ بھی اٹھاؤں گا، تاکہ تمہارا مستقبل سنور جائے۔ میں تمہارے والد کو تو نہیں بچا سکا، لیکن ان کے مقصد کو فوت ہونے سے ضرور بچالیا۔ بیٹا! میں تم لوگوں کا مجرم ہوں۔ تم لوگ مجھے جو سزا دینا چاہو، مجھے منظور ہے۔ اگر کبھی میں پاکستان گیا تو میمونہ بہن سے معافی مانگوں گا۔“ رضوان صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔

حسن دیر تک روتا رہا۔ دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو اس نے کہا: ”رضوان صاحب! ابا جتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہے، ہمیں ہمیشہ اچھی اور نیکی کی باتیں بتاتے رہے۔ ہر انسان کو کبھی نہ کبھی دنیا سے جانا ہی ہوتا ہے۔ ابا اب واپس نہیں آئیں گے

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۲۸ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

آپ ہمارے بزرگ ہیں۔ ایک لحاظ سے آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے۔ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں والد کی کمی محسوس نہ ہونے دی اور ہمیں کوئی تکلیف بھی نہ ہونے دی۔ امی کے سامنے ابا کی موت کا ذکر مت کیجیے گا۔ شاید وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائیں۔ رضوان صاحب! اب آپ کو ہمارے گھر پیسے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بڑا ہو گیا ہوں اور اپنا گھر چلا سکتا ہوں۔ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کروں گا۔ اور اپنی ماں کو خود رقم بھیجوں گا۔ حسن نے کہا۔

”بیٹا! اگر تم چاہو تو میرے پاس کام کر سکتے ہو۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میرا بیٹا میرے پاس ہے۔ میرا سب کچھ اب تمہارا ہی ہے۔“ رضوان صاحب نے حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔

حسن پڑھائی کے ساتھ ساتھ رضوان صاحب کی کمپنی میں کام کرنے لگا۔ اکثر ماں اور بہن سے فون پر باتیں کرتا اور انہیں والد کے متعلق تسلیاں بھی دیتا، اسی طرح حسن کو وہاں ایک مہینا گزر گیا۔

ادھر پوسٹ مین نے میمونہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔

”کون ہے؟“ گڑیا نے پوچھا۔

”پوسٹ مین بیٹا! منی آرڈر کی رقم وصول کر لو۔“

گڑیا نے دستخط کر کے منی آرڈر لیا اور ماں کے حوالے کر دیا۔

”بیٹا! یہ خط تو پڑھ کر سناؤ کہ تمہارے ابا نے اس بار نہ آنے کا کیا بہانہ لکھا ہے؟ میمونہ نے خط گڑیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کم زور آواز میں کہا۔

”امی! اس میں لکھا ہے کہ حسن میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ بہت بڑا ہو گیا ہے

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۲۹ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

یومِ پاکستان

عزم و استقلال بڑھانے آتا ہے

یہ دن اک پیغام سنانے آتا ہے

آپ کا ماضی، کیا رخشندہ ماضی ہے!

آپ کو قصہ یاد دلانے آتا ہے

ہمت ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے

جذبوں کو یہ دن گرمانے آتا ہے

آتا ہے ہر سال بہار کے موسم میں

من آنگن میں پھول کھلانے آتا ہے

اس دن کی تاریخ پڑھو، اس کو سمجھو

ایسا دن تقدیر بنانے آتا ہے

یومِ پاکستان ہے، یومِ بیداری

جو سوتے ہیں انہیں جگانے آتا ہے

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۳۱ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

اسے اچانک یہاں دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تم اس کی فکر بالکل مت کرنا، بس اپنا اور گڑیا کا خیال رکھنا اور ہاں اچھا سا لڑکا دیکھ کر گڑیا کی شادی کر دینا میرا انتظار مت کرنا۔ فی الحال میرا آنا بہت مشکل ہے، لیکن حسن آتا جاتا رہے گا۔ جو کام ہو اس سے کہہ دینا اور پریشان بالکل مت ہونا۔“

گڑیا نے خط پڑھ کر میونہ کو دیا میونہ نے دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھے اور خط سنبھال کر صندوق میں رکھ دیا۔

☆☆☆

گھر کے ہر فرد کے لیے مفید ماہنامہ ہمدرد صحت

صحت کے طریقے اور جینے کے قرینے سکھانے والا رسالہ

✽ صحت کے آسان اور سادہ اصول ✽ نفسیاتی اور ذہنی اُلجھنیں

✽ خواتین کے صحتی مسائل ✽ بڑھاپے کے امراض ✽ بچوں کی تکالیف

✽ جڑی بوٹیوں سے آسان فطری علاج ✽ غذا اور غذائیت کے بارے میں تازہ معلومات

ہمدرد صحت آپ کی صحت و مسرت کے لیے ہر مہینے قدیم اور جدید

تحقیقات کی روشنی میں مفید اور دل چسپ مضامین پیش کرتا ہے

رنگین ٹائٹل --- خوب صورت گٹ اپ --- قیمت: صرف ۴۰ روپے

اچھے بک اسٹالز پر دستیاب ہے

ہمدرد صحت، ہمدرد سینٹر، ہمدرد ڈاک خانہ، ناظم آباد، کراچی

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۳۰ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

اُمت کی مائیں

اس کتاب میں ان قابل احترام خواتین کی زندگی کے حالات بیان کیے گئے ہیں جن کو اپنی زندگیوں کا بڑا حصہ حضور ﷺ کے سایہ رحمت میں گزارنے کی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ یہ اُمت کی مائیں کہلائیں۔ یہ سعادت ان کو کیسے حاصل ہوئی؟ یہ جاننے کے لیے جناب حسین حسنی کی یہ کتاب ضرور پڑھیے۔ اُمت کی ماؤں کی زندگیاں صبر و رضا، ایثار اور ثابت قدمی کے قابل تقلید نمونے ہیں اور خاص طور پر مسلمان بچیوں اور خواتین کے لیے سبق آموز ہیں۔

صفحات : ۴۰ قیمت : ۴۰ روپے

قرآنی کہانی

حضرت یوسف علیہ السلام

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بعض انبیاء علیہم السلام کے سچے واقعات بیان کیے ہیں، تاکہ ہم ان سے رہنمائی اور سبق حاصل کر سکیں۔ ایسا ہی ایک قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے جو قرآن پاک کے خاص قصوں میں سے ایک ہے اور بہت دل چسپ ہے۔ یہ قصہ پروفیسر نصیر احمد چیمہ نے قرآنی کہانی کے طور پر نہایت آسان اور دلچسپ زبان میں بیان کر دیا ہے تاکہ آسانی سے پڑھا جائے۔

خوب صورت رنگین ٹائٹل، صفحات ۳۲ قیمت ۳۰ روپے

ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان، ہمدرد سینٹر، ناظم آباد-۳، کراچی

علم در پیچے

زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی عادت ڈالنے اور اچھی اچھی مختصر تحریریں جو آپ پڑھیں، وہ صاف نقل کر کے یا اس تحریر کی فوٹو کاپی ہمیں بھیج دیں، مگر اپنے نام کے علاوہ اصل تحریر لکھنے والے کا نام بھی ضرور لکھیں۔

توبہ کی تلقین

مرسلہ : تحریم خان، نارتھ کراچی

حضرت ابو دردراؓ ایک انصاری صحابی تھے۔ اسلام لانے سے پہلے تجارت کرتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد سارا وقت علم حاصل کرنے میں لگا دیا، یہاں تک کہ حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں ان کو معلم بنا کر دمشق بھیجا۔ وہاں ایک بار حضرت ابو دردراؓ شہر کے بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کو مار رہے ہیں۔ انھوں نے اس کا سبب پوچھا تو مارنے والوں میں سے کسی نے کہا کہ اس شخص سے ایک گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے، اس لیے سب مل کر اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔

حضرت ابو دردراؓ نے مجمع سے پوچھا:

”اگر کوئی شخص کنویں میں گر جائے تو کیا کرو گے؟ کیا اسے کنویں سے باہر نہ نکالو گے؟“

سب نے کہا: ”بے شک!“

حضرت ابو دردراؓ نے فرمایا: ”تو پھر اس شخص کی توبہ نہ کرو، اس کے بجائے اسے غلطی اور آخرت میں اس کی سزا کا احساس دلاؤ۔ اس کے عمل سے مجھے نفرت ہے، خود اس سے نہیں۔ یہ توبہ کر لے تو بہر حال میرا دینی بھائی ہے۔“

اس گنہگار شخص کو اپنے فعل پر ندامت ہوئی۔ وہ رو پڑا اور سب کے سامنے توبہ کر لی۔

شیخ سعدیؒ

مرسلہ : ارسلان اللہ خان، حیدرآباد

شیخ سعدیؒ ایک صوفی، ایک عالم،

ماہنامہ ہمدرد نونہال

مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

۳۳

ایک بزرگ، ایک استاد، ایک سیاح اور بہترین شاعر اور مصنف تھے۔ ان کی کتابیں گلستان اور بوستاں فارسی ادب اور اسلامی اخلاقیات کا عظیم سرمایہ ہیں۔ انھوں نے اخلاقیات پر اتنا زور دیا ہے کہ انھیں اگر اخلاقیات کا سب سے بڑا مبلغ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ شیخ سعدی کی اخلاقی تعلیمات کا نچوڑ ”اچھی صحبت“ ہے۔ ان کے نزدیک نیک بننے کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے اور بُروں کی صحبت سے ایسے دور رہا جائے جیسے آگ سے دور رہتے ہیں۔ اگر ہم شیخ سعدی کے اس آسان سے نسخے پر عمل کریں تو ہماری بھی شخصیت نکھر جائے گی اور ہم بھی نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر نیک بن جائیں گے۔

اصول کی بات

مرسلہ : سیدہ اریہ بتول، کراچی
 قائد اعظم کے ذاتی معالج کرنل الہی

☆ جس شخص کے پاس ہمت ہے، اس کے

ماہنامہ ہمدرد نو نہال // ۳۳ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

پاس سب کچھ ہے۔
 ☆ تعلیم ایک ایسی خوبی ہے، جس سے ایک آدمی کو صحیح معنوں میں انسان بنایا جاتا ہے۔
 ☆ اچھا سلوک کرنا سونا اور چاندی عطا کرنے سے بہتر ہے۔
 ☆ ہر روز نیکی کا ایسا کام کرو، جو دوسرے کے چہرے پر تبسم بکھیرے۔
 ☆ خود پہ ناز کرنا، خود کو برباد کرنے کے برابر ہے۔
 ☆ خندہ پیشانی سے پیش آنا، سب سے پہلی نیکی ہے۔
 ☆ خاموشی دانا کا زیور اور احمق کا بھرم ہے۔
 ☆ خاموشی سے دکھ سہنے کی عادت عبادت میں شمار ہوتی ہے۔

اوکسفرڈ

مرسلہ : فرازیہ اقبال، عزیز آباد
 ایک دعوت میں، جہاں اونچے اور سرکاری طبقے کے افراد موجود تھے، مولانا (مشہور ہے)

مولانا نے نہایت سادگی سے جواب دیا: ”اوکسفرڈ۔“
 (اوکسفرڈ یونیورسٹی دنیا بھر میں)

معلومات ہی معلومات

غلام حسین مبین

حواری

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان بارہ ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی مدد کا وعدہ کیا تھا۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ النساء میں بھی ملتا ہے۔ حواری کے معنی ساتھی یا خالص سفیدی کے ہیں۔

حضرت زبیر بن العوام کو حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم کے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت ابو بکرؓ کے داماد تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی عمر صرف سولہ سال تھی۔ آپؐ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ وہ کئی احادیث کے راوی ہیں۔

پانی پت کے ہیرے

قاضی ثناء اللہ پانی پتی بلند پایہ عالم دین تھے، جنہوں نے عربی زبان میں سات جلدوں پر مشتمل تفسیر مظہری لکھی۔ ان کے استاد مرزا مظہر جان نے ایک مرتبہ ان کے بارے میں کہا تھا: ”اگر اللہ تعالیٰ نے روزِ محشر پوچھا کہ ہماری بارگاہ میں کیا تحفہ لائے ہو تو میں عرض کروں گا کہ ثناء اللہ پانی پتی کو لایا ہوں۔ اسی طرح کا ایک اور تازہ جملہ ہمیں سرسید احمد خاں کا ملتا ہے۔ انہوں نے بڑے اصرار اور محبت سے مولانا الطاف حسین حالی سے ”مسدس مدوجزیر اسلام“ لکھوائی، جسے مسدس حالی کے

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۳۷ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

مطلب ہے کہ تم کسی اہم چیز سے جدا ہو گئے، لیکن اگر تمہارا کردار کھوجائے تو اس کا مطلب ہے کہ تم ہر چیز سے محروم ہو گئے۔“

خصوصیت

مرسلہ : عائشہ محمد خالد قریشی، سکھر
اچھے دوست، آنکھ اور ہاتھ کی مثال ہوتے ہیں۔ جب ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ روتی ہے اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو پونچھتے ہیں۔

انسان اور گھوڑا

مرسلہ : کول فاطمہ اللہ بخش، لیاری
انسان زیادہ احمق ہوتے ہیں یا گھوڑے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اگر کسی دوڑ میں بیس گھوڑے حصہ لے رہے ہوں تو اسے دیکھنے کے لیے ہزاروں انسان جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی دوڑ میں بیس انسان حصہ لے رہے ہوں تو اسے دیکھنے کے لیے ایک گھوڑا بھی نہیں آتا۔ ☆

موچی، ملک کا صدر بن گیا

مرسلہ : مہک اکرم، لیاقت آباد

۲۰۰۲ء میں منتخب ہونے والے

برازیل کے صدر ”لولا ڈی سلوا“ (LULA

DE SILVA) پہلے لوگوں کی جوتیاں گانٹھا

کرتے اور پالش سے جوتے چمکاتے، یعنی

موچی تھے۔ برازیل کے نئے صدر کا تعلق

ایک انتہائی غریب گھرانے سے ہے۔ وہ

غربت کی وجہ سے نہ باقاعدہ تعلیم حاصل

کر سکے اور نہ دوسرے بچوں کی طرح کھیل

کود کے لیے وقت نکال سکے۔ انہیں اپنا

پیٹ پالنے کے لیے کم عمری سے ہی لوگوں

کے جوتے پالش کرنے پڑے تھے۔ اس

کے بعد مونگ پھلیاں بیچنے لگے۔

خوب صورت بات

مرسلہ : سمیعہ وسیم، سکھر

اگر دولت کھوجائے تو اس کا مطلب

ہے کچھ نہیں کھویا۔ اگر صحت کھوجائے تو اس کا

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۳۶ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

اپنی کلہاڑی، اپنا پاؤں

محمد طارق

حامد کے چلتے قدم رک گئے۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا۔ یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ اس کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، جلدی سے ماسٹر حنیف کے گھر کے سامنے پڑے ہوئے ہزار روپے کے نوٹ کو اٹھا کر اپنی جیب میں ٹھونس لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا: ”بری بات ہے، یوں راستے میں پڑی ہوئی چیز کے مالک نہیں بن جاتے، بلکہ مالک تک وہ چیز پہنچا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ماسٹر حنیف کا نوٹ ہوگا۔ ان سے پوچھ لو اور ساتھ ہی آس پاس کے دو چار گھروں سے بھی معلوم کر لو، جس کا ہو، اس تک پہنچا دو، بڑا ثواب ملے گا۔“

گردن جھٹک کر وہ اپنے آپ سے بولا: ”واپس کیسے کر دوں، میں تو مزے اڑاؤں گا، برگر، سمو سے، چاٹ، دہی بھلے اور بہت سی مزے مزے کی چیزیں کھاؤں گا۔ آہا، کتنا مزہ آئے گا۔ میں ان پیسوں سے اپنے دوستوں عابد، شاہد اور قاسم کی دعوت کروں گا۔ ہم تینوں مرغی فرائی اور بریانی کے مزے اڑائیں گے۔ آخر شاہد نے بھی تو دو مہینے پہلے ہماری دعوت کی تھی۔ کئی دنوں تک ہم تینوں اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے اور وہ تھا کہ خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ کتنا مزہ آئے گا جب تینوں دوست میرے بھی گن گائیں گے۔“ اس نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنا ڈالا۔

اب اس کا رخ اپنے دوستوں کے گھروں کی طرف تھا۔ اس نے تینوں کو گھروں سے بلا کر اکٹھا کیا اور دعوت کی خوش خبری سنا ڈالی۔

نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک بار سر سید احمد خاں نے کہا تھا کہ روزِ محشر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ میرے لیے کیا لائے ہو تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں۔ اتفاق سے مولانا الطاف حسین حالی کا بھی تعلق ہندستان کے مشہور علاقے پانی پت سے تھا، جہاں ماضی میں کئی جنگیں برپا ہو چکی ہیں۔

تخت سلیمان اور تخت طاؤس

یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت ہے جسے ہوا اڑا کر لے جاتی تھی۔ اسی نام سے ایک پہاڑ سری نگر میں ہے، جسے تخت سلیمان کہا جاتا ہے۔ سری نگر مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے۔ اسی طرح تخت طاؤس بھی مشہور ہے، جسے مغل بادشاہ شاہجہاں نے خطیر رقم خرچ کر کے بنوایا تھا۔ بعد میں اسے نادر شاہ ہندستان سے ایران لے گیا۔

أحد، أحد

عربی زبان کا لفظ ”أحد“ ہے (زبر کے ساتھ) جس کے معنی ایک کے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر اس کو پیش کے ساتھ ”أحد“ پڑھا جائے تو یہ مدینے میں موجود مشہور پہاڑ کا نام ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جنگ کی تھی۔ اسی پہاڑ کے بالکل سامنے ایک چھوٹی پہاڑی ہے، جسے جبل رماۃ کہتے ہیں۔ اسی کے قریب نبی کریم کے چبوتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور جنگِ أحد کے دوہرے شہداء دفن ہیں۔

☆☆☆

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۳۸ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی



جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آج کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا۔ مرغی فرائی اور بریانی سے خوب انصاف کرنے کے بعد وہ آئس کریم پر ٹوٹ پڑے۔ کھانے سے فارغ ہو کر جب حامد نے بیل بنوایا تو پورے نو سو روپے کا بیل بنا۔ دوستوں کی فرمائش پر چار عدد ڈھنڈی بوتلیں منگوا کر حساب کتاب برابر کر دیا۔

حامد شام کو جب ڈکارتیں لیتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو اماں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ چار پائی کے سرہانے اماں غم سے نڈھال بیٹھی تھیں اور ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔

”خیر تو ہے اماں! کیا ہوا؟“ وہ سچ مچ روہانسا ہو گیا۔

پہلے تو اماں اس کی اچانک آمد سے حیران ہوئیں، پھر خود کو سنبھال کر آنسو

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۳۱ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

”ارے چھوڑو، یہ منہ اور مسور کی دال۔“ عابد نے حامد کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے فقرہ کسا، کیوں کہ اسے حامد کی مالی حالت کا بخوبی علم تھا۔

”ہاں، یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، کیوں کہ کیکر کے درخت پر بیر نہیں اُگا کرتے۔“ شاہد نے بھی عابد کی ہاں میں ہاں ملائی۔

”یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا۔ حامد اور دعوت، وہ بھی منہگے ہوٹل میں! نہ بھی نہ۔“ بھلا قاسم کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔

”اچھا تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا، لو یہ دیکھو۔“ حامد نے جذباتی انداز میں جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہزار روپے کا نوٹ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ تینوں اچھل پڑے اور ان کے منہ کھلے کھلے رہ گئے۔

”ارے، تم تو چھپے رستم نکلے۔“ مارے خوشی کے قاسم چمک اٹھا۔ پھر پوچھا:

”یہ تو بتاؤ کہ ہزار روپے آئے کہاں سے؟“

”عید قریب ہے یقیناً کسی رشتے دار نے عید سے پہلے عیدی دی ہوگی۔“ حامد کے جواب دینے سے پہلے ہی عابد بول پڑا۔

”ہمیں اس سے کیا کہ ہزار روپے کہاں سے آئے، کیوں کہ ہمیں آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے پیڑ گنتے سے نہیں۔“ شاہد نے جواب دیتے ہوئے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب ان کا رخ شہر کے مشہور ہوٹل کی طرف تھا۔

حامد نے کھانے کا آرڈر دیا۔ عابد، شاہد اور قاسم نے اپنی آستینیں چڑھائیں

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۳۰ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی



پونچتے ہوئے بولیں: ”بس بیٹا! کیا بتاؤں، تجھے تو پتا ہی ہے گھر کے حالات کا، عید بالکل قریب ہے، بس چار ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ تیرے لیے عید کے نئے کپڑے اور جوتے خرید لیں۔ آج ہی میں نے تیرے ابا سے کہا کہ ہمارا ایک ہی تو بیٹا ہے۔ اس کے لیے تو نئے کپڑوں اور جوتوں کا بندوبست ضرور کر دیں۔ مہینے دو مہینے کے لیے کسی سے ادھار ہی لے لیں۔ تجھے تو پتا ہی ہے بیٹا! تیرے ابا کو ادھار سے کتنی نفرت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آدمی اس سے دوسروں کی نظروں میں گر جاتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ادھار چکانے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے، جب کہ یہاں گھر کا خرچ ہی پورا نہیں ہوتا۔ میرے بار بار کہنے پر وہ بڑی مشکل سے ماسٹر حنیف سے ہزار روپے ادھار لینے پر راضی ہو گئے۔“ یہاں تک کہہ کر

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۴۳ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

یہ شاندار پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل رینج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو ای بک کا پرنٹ پر پو پو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل رینج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل رینج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب فورٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤن لوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤن لوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤن لوڈ کریں www.paksociety.com

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan

Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety



اماں تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے دوبارہ بولی: ”بیٹا! تیرے ابا نے ماسٹر حنیف سے ہزار روپے ادھار لیے تھے، وہیں کہیں گر گئے، کیوں کہ ان کی جیب پھٹی ہوئی تھی اور ان کو معلوم نہیں تھا۔ کہہ رہے تھے کہ ہزار کا بندھا ہوا نوٹ دیا تھا ماسٹر حنیف نے۔ بعد میں وہاں جا کر بہت ڈھونڈا، مگر روپے نہ ملے۔ بس بیٹے! اب ہم تیرے لیے عید کے نئے کپڑوں اور جوتوں کا بندوبست نہیں کر سکتے۔“

اماں نے آخری جملہ بڑے درد بھرے لہجے میں کہا تھا، جو حامد پر بجلی بن کر گرا۔ اب اسے پتا چلا کہ جو ہزار روپے اس نے دوستوں کے ساتھ مل کر خرچ کیے تھے وہ اس کے اپنے ہی تھے، یعنی اپنی کلباڑی خود اپنے پاؤں پر مار لی تھی یہ جان کر وہ پچھتانے لگا اور تصور ہی تصور میں اپنے آپ کو پرانے کپڑوں اور جوتوں میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔

تحریر بھیجنے والے نو نہال یاد رکھیں

☆ اپنی کہانی یا مضمون صاف صاف لکھیں اور اس کے پہلے صفحے پر اپنا نام اور اپنے شہر یا گاؤں کا نام بھی صاف لکھیں۔ تحریر کے آخر میں اپنا نام پورا پتا اور فون نمبر بھی لکھیں۔ تحریر کے ہر صفحے پر نمبر بھی ضرور لکھا کریں۔

☆ بہت سے نو نہال معلومات افزا اور بلا عنوان کہانی کے کوپن ایک ہی صفحے پر چپکا دیتے ہیں۔ اس طرح ان کا ایک کوپن ضائع ہو جاتا ہے۔

☆ معلومات افزا کے صرف جوابات لکھا کریں۔ پورے سوالات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

☆

ماہنامہ ہمدرد نو نہال ۲۵ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش یہ فائدہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے ہم خاص کیوں ہیں :-

- ☆ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ☆ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ☆ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ☆ سپریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ☆ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریچ
- ☆ ایڈ قری لٹس، لٹس کوئیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیا جاتا
- ☆ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو مائیل لنک
- ☆ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو پی ہر پوسٹ کے ساتھ
- ☆ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ☆ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریچ
- ☆ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ☆ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ☆ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب فورٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں www.paksociety.com

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan


Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1


ممتاز ادیب و شاعر تسلیم الہی زلفی سے ایک گفتگو



ہمدرد نونہال اسمبلی کی ایک تقریب میں دائیں سے بائیں جناب تسلیم الہی زلفی، جناب مسعود احمد برکاتی اور صدر ہمدرد فاؤنڈیشن محترمہ سعدیہ راشد۔

بے ترتیب سانسوں کے ساتھ لمبے لمبے قدم اٹھاتا، آنکھوں میں اشتیاق کی کرنیں سیٹے، دراز زلفوں والا تیرہ چودہ برس کا ایک ڈبلا پتلا لڑکا ”ہمدرد نونہال“ کے دفتر میں ایڈیٹر کا کمرہ تلاش کر رہا تھا۔ اچانک نگاہوں کی زد میں آنے والی ”مسعود احمد برکاتی“ کے نام کے تختی نے اس کی تلاش مکمل کر دی۔ کمرے میں مدیر اعلا کی کرسی پر ایک پُرکشش شخصیت نظر آئی۔ وال کلاک کی ٹنگ ٹنگ کرتی

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۳۶ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی



تسلیم الہی زلفی ہمدرد نونہال اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے۔

سویاں دن کے تیسرے پہر کے آغاز کا اعلان کر رہی تھیں تو دیوار پر آویزاں کلینڈر سنہ ۶۰ء کی دہائی کے زمانے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے والے اس نوجوان کا نام تسلیم الہی زلفی ہے، جو اپنی پہلی کاوش ایک نظم ”ہمدرد نونہال“ میں شائع کرانے کے لیے آئے تھے۔ تمام تر رعب و دبدبے کے باوجود ایڈیٹر صاحب کی شفیق نگاہوں اور لبوں پر بھی مسکراہٹ نے حوصلہ دیا تو موصوف نے ہاتھوں کی لرزش اور دل کی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کسی قدر اعتماد کے ساتھ اپنی پہلی کاوش انھیں پیش کر دی، جسے اپنے پاس رکھتے ہوئے برکاتی صاحب نے آئندہ بھی لکھتے رہنے کی تاکید کی اور اگلے شمارے میں زلفی صاحب کی وہ نظم شامل تھی۔ اس نظم کی اشاعت کے بعد تسلیم الہی زلفی ایک نونہال قلم کار کی حیثیت سے بچوں کے مختلف

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۳۷ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

رسالوں میں لکھتے ہی چلے گئے۔ ہمدرد نونہال سے اپنی وابستگی کے آغاز کا یہ احوال زلفی صاحب نے گزشتہ دنوں کراچی آمد پر ایک ملاقات میں بیان کیا۔

نونہال دوستو! اس سے پہلے کہ ہم تسلیم الہی زلفی صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں آپ کو شامل کریں آئیے چند باتیں ان کے بارے میں بتاتے چلیں۔

تسلیم الہی زلفی کینیڈا میں گزشتہ کئی عشروں سے مقیم ہیں۔ اردو ٹی وی کینیڈا کے صدر ہیں اور اپنے ٹی وی چینل کی انتظامی ذمے داریوں کے ساتھ ساتھ بحیثیت نیوز کاسٹربھی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کراچی کے ”بزم طلبہ فورم کینیڈا، امریکا اور برطانیہ“ کے بھی روح رواں ہیں۔

جناب تسلیم الہی زلفی سے گفتگو کا آغاز ہوا تو انھوں نے اپنے خاندانی پس منظر اور ابتدائی حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہنا شروع کیا: ”میرا خاندانی نام تسلیم الہی قریشی ہے۔ صدیوں پہلے ہمارے بزرگ تبوک، جزیرہ نمائے عرب سے اسلام کی تبلیغ کے لیے ہندستان آئے تھے۔ حضرت سید احمد شہید میرے جد امجد ہیں۔ ۱۹۴۷ء میں جب ہندستان کی تقسیم ہوئی تو اس موقع پر ہمارے خاندان کے کچھ لوگ سعودی عرب واپس چلے گئے۔ کچھ لوگ پاکستان ہجرت کر گئے اور باقی ہندستان ہی میں آباد رہے۔

میں ۱۳ جولائی ۱۹۴۷ء کو آگرہ میں پیدا ہوا۔ میرے والدین نے مجھے لے کر پاکستان ہجرت کی، لیکن پاکستان میں محض تین سال کے قیام کے بعد ۱۹۵۰ء کے اواخر میں اپنی فیملی کے ساتھ سعودی عرب چلے گئے اور ابتدائی تعلیم میں نے جدہ کے ایک عربی پرائمری اسکول مدرسۃ الفلاح سے حاصل کی۔ اسی دوران گھر پر مجھے

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۳۸ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

باقاعدہ اردو پڑھنا لکھنا سکھایا گیا اور میں نے گھر پر ہی آٹھویں جماعت کا نصابی کورس مکمل کر لیا۔ مزید تعلیم کے لیے میرے والدین نے مجھے پاکستان بھیج دیا۔ ۲۶ اکتوبر ۱۹۵۸ء کو میں نے کراچی میں قدم رکھا ہے تو اگلے ہی روز پاکستان میں انقلاب آ گیا، یعنی ۲۷ اکتوبر ۱۹۵۸ء کو فیلڈ مارشل ایوب خان نے پچھلی حکومت ختم کر کے نئی حکومت کی باگ ڈور سنبھال لی۔ یاد رہے اس وقت پاکستان کا دار الحکومت کراچی ہوا کرتا تھا۔ خیر کراچی پہنچ کر ہم نے اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ جب کراچی پہنچا تو میرے پھوپھانے میرے شعری و ادبی رجحان کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے پیر بھائی بہزاد لکھنوی صاحب کی شاگردی میں دے دیا۔ جنھوں نے سب سے پہلے تو مجھے ”زلفی“ کا تخلص دیا اور اس کے بعد باقاعدہ علم عروض کی تعلیم۔ جب کہ ان ہی دنوں نثر نگاری کے لیے میں نے روزنامہ جنگ کراچی میں بچوں کے صفحات ”ہونہار لیگ“ کے انچارج شفیع عقیل صاحب سے ملاقات کی اور ان کے مشورے سے عربی کہانیوں کے اردو ترجمے اخبار جنگ کے لیے لکھنا شروع کیے، جو بچوں اور بڑوں میں بے حد پسند کیے گئے۔

گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے ان سے دریافت کیا۔

سوال : بحیثیت نونہال قلم کار آپ نے اور کن جرائد و اخبارات میں لکھا؟

جواب : ہمدرد نونہال اور روزنامہ جنگ کے بچوں کے صفحات ”ہونہار لیگ“ کے علاوہ تعلیم و تربیت، کھلونا اور کراچی سے شائع ہونے والے کامل قریشی صاحب کے ”بچوں کا اخبار“ میں بھی ہماری نظمیں اور کہانیاں وغیرہ شائع ہوتی رہیں۔

سوال : بچوں کے لیے طبع زاد کہانیاں لکھنے میں زیادہ لطف آیا یا ترجمہ کہانی میں؟

جواب : سچ بات تو یہ ہے کہ جو لطف ”طبع زاد“ تخلیقی عمل میں ہے، وہ ترجمے میں کہاں۔

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۳۹ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

سوال : کیا اُس زمانے میں بچوں کے رسائل میں لکھنے والے بچوں کے نام یاد ہیں جو آج نامور اہل قلم میں شمار ہوتے ہیں؟

جواب : جی ہاں، اس زمانے میں لکھنے والے ہمارے بیشتر نوعمر ہم قلم..... آج کی نامور ادبی شخصیات میں شامل ہیں، جیسے انور شعور، عبید اللہ علیم، نصیر ترابی، پیرزادہ قاسم، ثروت حسین، جمال احسانی، تنویر پھول، امجد اسلام امجد، ایوب خاور، نیر بن سوز، صفورا خیری، نوشابہ صدیقی، تاجدار عادل، جاوید منظر، نقاش کاظمی، وضاحت نسیم اور بہت سارے جن کے نام اس وقت ذہن کی گرفت میں نہیں آ رہے ہیں۔

سوال : آپ اپنے بچپن میں بچوں کے کن ادیبوں، شاعروں اور بچوں کے رسالے کے کس مدیر سے متاثر تھے؟

جواب : ہمارے بچپن میں بچوں کے لیے لکھنے والے ادیبوں اور شعراء میں مسعود احمد برکاتی، کوثر چاند پوری، عشرت رحمانی، علی ناصر زیدی، شان الحق حقی، مسلم ضیائی، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، شاعر لکھنوی، محشر بدایونی، اشرف صبوحی، میرزا ادیب اور ماہر القادری وغیرہ شامل ہیں۔ جب کہ ہمیں متاثر کرنے والے بچوں کے رسالوں کے مدیران میں مسعود احمد برکاتی صاحب سرفہرست ہیں۔ جن کی شفقت اور حوصلہ افزائی نے ہمیں اس میدان میں آگے بڑھایا اور آج بھی وہ اسی کمال شفقت سے پیش آتے ہیں۔ ۲۰۰۶ء میں جب اپنی دسویں کتاب کی اشاعت کے موقع پر ہم کینیڈا سے کراچی آئے تھے تو برکاتی صاحب اور سعدیہ راشد صاحبہ نے ہمیں ”نونہال اسبلی“ سے خطاب کرنے کے لیے مدعو کیا۔ اس موقع پر انھوں نے ہمیں ”ہمدرد“ کی

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۵۰ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

جانب سے ”وثیقہ کمال اعتراف“ بھی عطا فرمایا، لیکن جب ہم نے برکاتی صاحب کو اپنی نئی کتاب پیش کی تو اس وقت ہماری وہی کیفیت تھی جو اپنی پہلی نظم بغرض اشاعت پیش کرتے وقت پورے ۴۴ برس پہلے تھی۔ گزشتہ چھ دہائیوں میں ”نونہال“ کے ذریعے برکاتی صاحب نے پاکستانی نونہالوں کی چھ نسلوں کی تربیت کی ہے اور مجھے شرف حاصل ہے کہ میرا تعلق تربیت پانے والی پہلی نسل سے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں بچوں کی تہذیبی، اخلاقی، لسانی تربیت اور ایک اچھا شہری بنانے کی مسلسل خدمت کے حوالے سے مسعود احمد برکاتی کا نام سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ سادہ مزاج، وضعدار، کم گو اور کم آمیز برکاتی صاحب اپنے جد امجد ممتاز عالم دین حکیم برکات احمد صاحب کی طرح عزت، شہرت اور علم و دانش کی بلند یوں پر فائز ہیں۔ خدا انھیں صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا کرے۔ وہ ہم سب کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہیں۔ شہید حکیم محمد سعید صاحب نے ہمیشہ ان کے خلوص، عزم، جذبے، لگن، محنت، صلاحیت اور انتظامی سلیقے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اب یہی جذبہ ہم حکیم صاحب کی لائق صاحبزادی سعدیہ راشد صاحبہ میں دیکھتے ہیں جو برکاتی صاحب کی حد درجہ قدر داں ہیں۔

سوال : زندگی میں اپنی کامیابی کا راز آپ کے خیال میں کیا ہے؟ ہم نے گفتگو کو ختم کرتے ہوئے پوچھا۔

جواب : نونہال کے قلم کار سے لے کر اردو ٹی وی کینیڈا تک میرے کامیاب سفر کا ثمر میری مسلسل محنت اور یکسوئی کا مرہون منت ہے اور یہی بات میں اپنے ننھے ساتھیوں سے کہوں گا وہ ہر کام محنت اور یکسوئی سے کریں تو کامیابی یقینی ہے۔

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۵۱ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

بس تم سچ ہی بولو

شاہد حسین

جب بھی لب کو کھولو بچو!
 سچ ہی بس تم بولو بچو!
 سچ سدا دیتا ہے راحت
 اس سے ہی دنیا ہے جنت
 جھوٹ ہے سن لو ایک بُرائی
 ہوتی اس سے جگ ہنسائی
 سچ کی جیت ہمیشہ ہوتی
 جھوٹے کی قسمت ہے سوتی
 سچے کا رتبہ ہے اعلا
 اور جھوٹے کا منہ ہے کالا
 بڑے بوڑھوں کا ہے یہ کہنا
 سچ ہی ہے جیون کا گہنا
 ہر اک لفظ کو تولو بچو!
 پھر ہی لب کو کھولو بچو!

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۵۲ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی



😊 اسپتال کے بستر پر مریض کا آخری وقت تھا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا: "گلشن کے دس مکان تمہارے۔"
 دوسرے بیٹے سے کہا: "ڈیفنس کے ساتوں گھر تمہارے۔"
 بیوی سے مخاطب ہو کر کہا: "صدر کے سارے فلیٹ تمہارے۔"

😊 پاس کھڑی نرس بہت متاثر ہوئی اور بولی: "لگتا ہے آپ کے شوہر بہت امیر آدمی ہیں۔"
 بیوی بولی: "امیر نہیں ہیں، دودھ سپلائی کرتے ہیں، اپنے گاہک تقسیم کر رہے ہیں۔"
 مرسلہ: مریم عبدالرب، جگہ نامعلوم
 😊 ٹیچر (لائب سے): "اے بی بی سناؤ۔"
 لائب: "اے بی بی۔"
 ٹیچر: "اور سناؤ۔"
 لائب: "اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔"
 مرسلہ: بریرہ عبدالرؤف، مرید کے عدالت میں بحث جاری تھی۔ وکیل نے

ماہنامہ ہمدرد نونہال

ONLINE LIBRARY
 FOR PAKISTAN



PAKSOCIETY1



PAKSOCIETY

پُر زور دلائل دیتے ہوئے پلٹ کر چھٹری سے ملزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: "اس چھٹری کے سرے پر انسان نہیں ایک شیطان کھڑا ہے۔"
 جج نے حیرت سے پوچھا: "کون سے سرے پر؟"

مرسلہ: قمرنازد دہلوی، کراچی

😊 جج (نہایت غصے سے): "یہ بیسویں دفعہ تم میرے سامنے پیش ہو رہے ہو۔"
 ملزم معصومیت سے: "جناب! اس میں میرا کیا قصور ہے! آپ کا تبادلہ ہی نہیں ہوتا۔"
 مرسلہ: اسامہ ظفر راجا، سرائے عالمگیر
 😊 باپ نے بیٹے سے پوچھا: "یہ کیا؟ تمہارے ٹیسٹ میں زیر و نمبر کیوں ہیں؟"
 بیٹا بولا: "ابو! استاد کے پاس اشار ختم ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے گول گول سیارے دینا شروع کر دیے۔"
 مرسلہ: سید حیدر شاہ، اوہاڑو

ماہنامہ ہمدرد نونہال

۵۳



WWW.PAKSOCIETY.COM
 RSPK.PAKSOCIETY.COM

افسر: ”کیوں کہ کل جب تم دفتر سے چھٹی لے کر اپنے دادا کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے تھے، تو تھوڑی دیر بعد وہ تم سے ملنے یہاں آئے تھے۔“

مرسلہ: عبدالجبار رومی انصاری، لاہور
 شہر نے بیوی سے کہا: ”میرے دوست چائے پینے آرہے ہیں۔ تم جلدی سے چمچے چھپا دو۔“
 بیوی: ”کیوں! کیا آپ کے دوست چور ہیں؟“
 شہر: ”نہیں، میں ڈرتا ہوں کہ وہ اپنے چمچے نہ پہچان لیں۔“

مرسلہ: جواد الحسن، لاہور
 ایک خاتون کار لے کر سروس اسٹیشن پہنچیں۔ کار جگہ جگہ سے پچکی ہوئی تھی۔ انہوں نے لڑکے سے پوچھا: ”کیا یہاں کاریں دھوئی جاتی ہیں؟“
 لڑکا بولا: ”جی ہاں، دھوئی جاتی ہیں، لیکن استری نہیں کی جاتی۔“

مرسلہ: زینب ناصر، فیصل آباد

پھر ساتھ بیٹھے آدمی سے نقدی لیتے ہوئے نام پوچھا۔ آدمی نے کہا: ”نام تو میرا شمس الدین ہے، مگر پیار سے مجھے شیما کہتے ہیں۔“

مرسلہ: محمد عمر رشید، کراچی
 ایک آدمی دہلی کے ایک ہوٹل میں چکن روٹ کے ساتھ ساتھ ہڈیاں بھی چبا رہا تھا۔ پاس ہی ایک غیر ملکی بیٹا بسکٹ کھا رہا تھا۔ وہ اس آدمی کو دیکھ کر بولا: ”آپ لوگ ہڈیاں بھی کھا جاتے ہیں تو آپ کے ملک میں کتے کیا کھاتے ہیں؟“

وہ آدمی فوراً بولا: ”بسکٹ۔“
مرسلہ: لیلیٰ جبین، کراچی
 افسر نے کلرک سے پوچھا: ”مسٹر شریف! کیا آپ موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں؟“

کلرک: ”جی ہاں۔“
 افسر: ”پھر ٹھیک ہے۔“
 کلرک: ”لیکن سر! آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟“

مرسلہ: زینب ناصر، فیصل آباد

موٹر سائیکل پر پیسے لگاؤ، ٹھیک ہو جائے گی۔“
مرسلہ: انوشہ سلیم الدین، جگہ نامعلوم
 ایک پاگل نے بزرگ سے کچھ پوچھا۔ بزرگ نے پاگل کے دو تھپڑ لگا دیے۔ قریب سے ایک آدمی گزر رہا تھا۔ اس نے کہا: ”تم نے بزرگ سے کیا پوچھا تھا۔“

پاگل نے کہا: ”میں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ چودہ اگست کی نماز کہاں ہوگی؟“
مرسلہ: اسرئی خان، کراچی
 ایک بے وقوف اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے کہا: ”ان کا ٹیسٹ ہوگا۔“

بے وقوف نے کہا: ”ہاں ہاں، ٹیسٹ ضرور کریں، مگر سوالات زیادہ مشکل نہ ہوں۔“
مرسلہ: کشمالہ ذکاء، بمبئی، شیخوپورہ

ایک بس میں ڈاکو گھس آئے۔ ایک ڈاکو نے ایک عورت سے زیورات لیتے ہوئے نام پوچھا۔ عورت نے نام بتایا: ”شیما۔“
 ڈاکو نے زیورات واپس کرتے ہوئے کہا: ”میری بہن کا نام ہے۔“

دو امریکی قبرستان میں اپنے ایک دوست کی قبر پر پھول چڑھا کر جب واپس آنے لگے تو انہوں نے ایک چینی کو دیکھا جو ایک قبر پر چادلوں کے دانے بکھیر رہا تھا۔ امریکیوں نے اس سے پوچھا: ”مرحوم تمہارے چاول کھانے کب آئے گا؟“
 ”جب تمہارا مرحوم رشتے دار پھول سونگھنے آئے گا۔“ چینی نے کہا۔

مرسلہ: کوئل فاطمہ اللہ بخش، لیاری
 ایک آدمی نے بیکری پر پڑے کا آرڈر دیا۔ سیلز مین نے پوچھا: ”جناب! پڑے کے چار ٹکڑے کروں یا آٹھ؟“

آدمی نے جواب دیا: ”چار ٹکڑے ہی کر دو، آٹھ کون کھائے گا۔“

مرسلہ: محمد عبداللہ افتخار، لاہور
 ایک آدمی نے پرانی موٹر سائیکل کو دس دس کے نوٹوں سے سجا رکھا تھا۔ اس کے دوست نے پوچھا: ”یہ کیا کر رہے ہو؟“
 آدمی نے کہا: ”مکینک نے کہا تھا کہ اس

ماہنامہ ہمدرد، نومبر ۲۰۱۵ء عیسوی // ۵۴ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

چلنے پھرنے لگتے ہیں کہ آدمی کا یہ بچہ اپنی بستی سے بھاگتا ہوا ہمارے جنگل میں چلا آیا؟“
کئی درباری جانور ہنس پڑے۔ شیر نے خونخوار نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تو
سب ہم کرچپ ہو گئے۔

اب شیر نے بندر کو مخاطب کیا: ”سچ بتاؤ اس آدمی کے بچے کو تم کہاں سے
لائے ہو؟“

”بادشاہ سلامت! ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بچہ وہیں سے ملا ہے۔“ اس کے بعد
اس نے وہ سارا واقعہ کہہ سنایا جو انہوں نے دیکھا تھا۔ پھر بولا: ”ہم سے اس ننھے بچے کا رونا
نہ دیکھا گیا اور ہم نے فوراً درخت سے نیچے آ کر اسے اپنی گود میں اٹھالیا۔“

شیر نے سب جانوروں کی طرف دیکھ کر کہا: ”اس بندر اور بندر یا نے اس ننھی سی
جان کو بچا کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم جانور، انسانوں کی طرح بے درد نہیں ہوتے۔ ہمارے
سینوں میں انسانوں سے کہیں زیادہ محبت بھرا دل ہوتا ہے۔“ اتنا کہہ کر شیر ذرا رُکا پھر
اپنی بات آگے بڑھائی: ”جو بچوں سے محبت نہیں کرتا، وہ حیوان ہے، شیطان ہے، قابل
نفرت ہے اور یہ انسان..... اشرف المخلوقات کہلوانے والے یہ لوگ اپنے بچوں پر بھی رحم
نہیں کرتے۔ کیوں میاں مٹھو! میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟“ اس نے توتے کو مخاطب کرتے
ہوئے کہا: ”تم لوگوں نے تو انسانوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور تمہارا یہ نام بھی انہی
لوگوں نے دیا ہے۔“

”جی ہاں عالم پناہ! آپ درست فرما رہے ہیں۔ انسان اپنی انسانیت کا بڑا
ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، مگر ذرا ذرا سی بات پر آپس میں بری طرح لڑتے ہیں۔ انسانی درندگی کا
یہ عالم ہے کہ اپنے مخالف کے بچوں تک کو معاف نہیں کرتے۔ ہمیں میاں مٹھو کہنے والے یہ

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۵۸ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

لوگ ہمیں تو تا چشم بھی کہتے ہیں۔ جب ہم کسی طرح ان کے پنجرے سے فرار ہو جاتے ہیں
تو وہ ہمیں تو تا چشم ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ گویا انہوں نے ہمیں قید کر کے ہم پر بڑا
احسان کیا تھا۔“

”جان کی امان پاؤں تو میں بھی کچھ عرض کروں۔“ ایک کوا بولا۔

”بولو، کیا کہنا چاہتے ہو۔“ شیر نے کہا۔

”انسانوں نے نہایت خطرناک قسم کے ہتھیار بنائے ہیں، جو پلک جھپکتے میں

ہزاروں کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ وہ بے دھڑک ان کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے
جیسے ہزاروں انسانوں کو مار ڈالتے ہیں۔

کوا رُکا تو شیر بولا: ”یہ ہے ان کی درندگی کا حال۔ جو وہ ہم کو درندہ او
رخونخوار کہتے ہیں، مگر ہم تو اپنے جیسے کسی جانور کا شکار کبھی نہیں کرتے۔ کوئی شیر کسی شیر کو، کو
ئی بھیڑ یا کسی بھیڑیے کو نہیں مارتا، مگر یہ انسان ایسی درندگی کے بعد بھی اشرف المخلوقات
کہلاتا ہے۔“

”میں کچھ عرض کروں، اجازت ہے؟“ ایک اُلونے پوچھا۔

”اجازت ہے۔“

”بادشاہ سلامت! انسانوں کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں، وہ غلط نہیں ہیں،

مگر سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ان میں بڑی تعداد میں بہت اچھے انسان بھی ہوتے
ہیں، جو تمام انسانوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے اچھے اچھے کام کرتے ہیں اور بُرے
انسانوں کو بُری باتوں سے روکنے کے لیے بڑی جدوجہد کرتے ہیں۔ ان کی بے شمار اچھی
باتیں ہیں، جن کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں۔“

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۵۹ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

کھا کر جب سارے بندر بے ہوش ہو گئے تو شکاری نے اس انسان نما بندر کو اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالا اور اپنے شہر لے آیا۔ اب اس نے اسے دوبارہ انسان بنانے کے تمام جتن کر ڈالے۔ اسے نہلایا اور انسانوں جیسے کپڑے پہنائے۔ اسے کھانے پینے کی اچھی چیزیں دینے لگا۔ اس کے سونے کے لیے آرام دہ بستر کا بندوبست کیا، مگر یہ سب اس کو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ اور خوں خاں کر کے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا۔

شکاری نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ اس کی بات سمجھنے لگے اور اپنی بات سمجھانے لگے، مگر اس کی ساری کوشش بے کار ثابت ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے انسانوں کی کوئی بات پسند ہی نہیں اور نہ وہ انسانوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ شکاری نے اسے اپنی نگرانی میں رکھا تھا۔ اس کے باوجود ایک دن موقع ملے ہی وہ انسانوں کی بستی سے جنگل کی طرف بھاگ گیا، جہاں اس کے ماں باپ اس کے بغیر اداس اور اس کے تھے۔

☆☆☆

اس بلا عنوان انعامی کہانی کا اچھا سا عنوان سوچیے اور صفحہ ۶۳ پر دیے ہوئے کوپن پر کہانی کا عنوان، اپنا نام اور پتا صاف صاف لکھ کر ہمیں ۱۸- مارچ ۲۰۱۵ء تک بھیج دیجیے۔ کوپن کو ایک کاپی سائز کاغذ پر چپکا دیں۔ اس کاغذ پر کچھ اور نہ لکھیں۔ اچھے عنوانات لکھنے والے تین نونہالوں کو انعام کے طور پر کتابیں دی جائیں گی۔ نونہال اپنا نام پتا کوپن کے علاوہ بھی علاحدہ کاغذ پر صاف صاف لکھ کر بھیجیں تاکہ ان کو انعامی کتابیں جلد روانہ کی جاسکیں۔

نوٹ: ادارہ ہمدرد کے ملازمین اور کارکنان انعام کے حق دار نہیں ہوں گے۔

ماہنامہ ہمدرد نونہال

۶۱

مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

دوبارہ ختم ہونے کے بعد بندر اور بندر یا بہت خوش خوش اپنے گھر لوٹے۔ بندر بولا: ”دیکھو ہماری نیکی کی بادشاہ نے بھی تعریف کی۔ تم خواہ مخواہ ڈر رہی تھیں۔“

”ہاں، اللہ کی مہربانی سے ہمارے بچے پر کوئی آنچ نہیں آئی۔“

دونوں اپنے بچوں کی طرح اس انسانی بچے کو بھی پالنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بچہ بڑا ہونے لگا اور بندر کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے لگا۔ اب وہ اسے مختلف قسم کے پھل لا کر کھلانے لگے۔ یہ بچہ بھی بندر کے بچوں کی طرح پیروں اور ہاتھوں کے سہارے بھاگنے دوڑنے اور درختوں کی شاخوں پر اُچھلنے کودنے لگا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب وہ اپنی خوراک کا بندوبست خود کرنے لگا اور جہاں اس کا جی چاہتا، اکیلے آنے جانے لگا۔ جنگل کے جانور بھی اسے اپنے جیسا جانور سمجھنے لگے تھے۔

ایک دن ایک شکاری کا گزر اس جنگل کی طرف ہوا تو اچانک اس کی نظر اس انسان نما جانور پر پڑی: ”ارے! یہ کیسا بندر ہے۔ اس کی شکل و صورت تو بالکل انسانوں جیسی ہے۔“ اس نے دل ہی دل میں کہا۔ وہ ایک جگہ چھپ کر اسے دیکھنے لگا۔

یہ یقیناً انسان ہے، لیکن اس کی پرورش جنگلی جانوروں کے درمیان ہوئی ہے۔ اس نے سوچا کہ اسے پکڑ کر انسانوں کی آبادی میں لے جانا چاہیے، تاکہ وہ دوبارہ انسان بن سکے، مگر اسے پکڑنا بڑا مشکل کام تھا۔ وہ انسانی بندر سے دیکھتے ہی بھاگ جاتا تھا۔

شکاری نے یہ ترکیب نکالی کہ پھل اور کھانے کی مختلف چیزیں لا کر زمین پر ڈال دیتا اور چھپ کر اس پر نظر رکھتا۔ اس کے ساتھ دوسرے بندر بھی وہاں آنے لگے۔ کئی دنوں کے بعد شکاری کھانے کی کچھ ایسی چیزیں لایا، جن میں اس نے بے ہوشی کی دوامدادی تھی۔ انھیں

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۶۰ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

معلومات افزا کے سلسلے میں حسب معمول ۱۶ سوالات دیے جارہے ہیں۔ سوالوں کے سامنے تین جوابات بھی لکھے ہیں، جن میں سے کوئی ایک صحیح ہے۔ کم سے کم گیارہ صحیح جوابات دینے والے نونہال انعام کے مستحق ہو سکتے ہیں، لیکن انعام کے لیے سولہ صحیح جوابات بھیجنے والے نونہالوں کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر ۱۶ صحیح جوابات دینے والے نونہال ۱۵ سے زیادہ ہوئے تو پندرہ نام قرعہ اندازی کے ذریعے سے نکالے جائیں گے۔ قرعہ اندازی میں شامل ہونے والے باقی نونہالوں کے صرف نام شائع کیے جائیں گے۔ گیارہ سے کم صحیح جوابات دینے والوں کے نام شائع نہیں کیے جائیں گے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جوابات صحیح دیں اور انعام میں ایک اچھی سی کتاب حاصل کریں۔ صرف جوابات (سوالات نہ لکھیں) صاف صاف لکھ کر کوپن کے ساتھ اس طرح بھیجیں کہ ۱۸- مارچ ۲۰۱۵ء تک ہمیں مل جائیں۔ کوپن کے علاوہ علاحدہ کاغذ پر بھی اپنا مکمل نام پتا بہت صاف لکھیں۔ ادارہ ہمدرد کے ملازمین / کارکنان انعام کے حق دار نہیں ہوں گے۔ ☆

- ۱- حضور اکرمؐ کے زمانے میں..... ایران کا بادشاہ تھا۔ (نوشیرواں عادل - منوچہر - خسرو پرویز)
- ۲- بیت المقدس..... زبان میں یروشلم کو کہتے ہیں۔ (عربی - عبرانی - فارسی)
- ۳- ابن بیطار مشہور مسلمان..... تھے۔ (ماہر فلکیات - ماہر نباتیات - ماہر حیوانیات)
- ۴- ۲۶ جولائی..... کو قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ (۱۹۳۰ء - ۱۹۳۳ء - ۱۹۳۵ء)
- ۵- مشہور کتاب ”ظہور پاکستان“..... کی تصنیف ہے۔ (چودھری فضل الہی - چودھری محمد علی - چودھری ظہور الہی)
- ۶- پاکستان کی مشہور جیل ”حنا“..... میں واقع ہے۔ (ٹھٹھہ - حب - کوئٹہ)
- ۷- قائد اعظم نے کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنانے کا حکم (آڈینس) ۲۲ جولائی..... کو جاری کیا تھا۔ (۱۹۴۷ء - ۱۹۴۸ء - ۱۹۴۹ء)
- ۸- ۱۹۵۳ء میں پاکستان کے..... عالمی عدالت کے جج مقرر ہوئے تھے۔ (مرزا ابوالحسن اصفہانی - سرظفر اللہ خاں - محمد ایوب کھوڑو)
- ۹- آم کی ایک قسم ”.....“ کہلاتی ہے۔ (گوٹکا - بہرا - لتکڑا)
- ۱۰- ”خاتمہ“ فارسی زبان میں..... کو کہتے ہیں۔ (کرسی - دروازے - قلم)
- ۱۱-..... کا ایک دن ۲۴ گھنٹے اور ۳۸ منٹ کا ہوتا ہے۔ (زمین - مریخ - مشتری)
- ۱۲- ”موغادیشو“..... کا دارالحکومت ہے۔ (صومالیہ - بلغاریہ - ایتھوپیا)

۱۳- سب سے ہلکی گیس..... ہے۔

۱۴- دنیا کی سب سے لمبی دیوار ”.....“ ہے۔

۱۵- اردو زبان کا ایک محاورہ ”تین میں نہ..... میں“

۱۶- جگر مراد آبادی کے اس شعر کا دوسرا مصرع مکمل کیجیے:

جہل خرد نے دن یہ دکھائے گھٹ گئے..... بڑھ گئے سائے

(درخت - پہاڑ - انسان)

کوپن برائے معلومات افزا نمبر ۲۳۱ (مارچ ۲۰۱۵ء)

نام:

پتا:

کوپن پر صاف صاف نام، پتہ لکھیے اور اپنے جوابات (سوال نہ لکھیں، صرف جواب لکھیں) کے ساتھ لفظی میں ڈال کر دفتر ہمدرد نونہال، ہمدرد ڈاک خانہ، کراچی ۷۴۶۰۰ کے پتے پر اس طرح بھیجیں کہ ۱۸ مارچ ۲۰۱۵ء تک ہمیں مل جائیں۔ ایک کوپن پر ایک ہی نام بہت صاف لکھیں۔ کوپن کو کاٹ کر جوابات کے صفحے پر چپکا دیں۔

کوپن برائے بلا عنوان انعامی کہانی (مارچ ۲۰۱۵ء)

عنوان:

نام:

پتا:

یہ کوپن اس طرح بھیجیں کہ ۱۸- مارچ ۲۰۱۵ء تک دفتر پہنچ جائے۔ بعد میں آنے والے کوپن قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ایک کوپن پر ایک ہی نام اور ایک ہی عنوان لکھیں۔ کوپن کو کاٹ کر کاپی سائز کے کاغذ پر درمیان میں چپکائیے۔



عشاء یوسف قائم خانی، کچھرو



طلوبی فاروق حسین شیخ، شکار پور



نونہال مصور



کومل قاطمہ اللہ بخش، لیاری




سیدہ تایاب بتول، ڈیرہ غازی خان



حسان حماد، کراچی



فاتزہ کامل کراچی



زین اسلم تارحہ کراچی

ماہنامہ ہمدرد نونہال

۶۵

مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

بچوں کے حکیم محمد سعید

شہید پاکستان کی زندگی کی کہانی، خود ان کی زبانی

ایک بہت بڑے انسان کی حقیقی زندگی کے حالات

جس انسان نے اپنی زندگی خود بنائی۔ طب مشرقی کے فن کو بلندی پر پہنچایا۔ علم کو پھیلا یا۔

نونہالوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ادارے قائم کیے۔ اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک بنائی۔

بچوں کے لیے رسالہ ہمدرد نونہال جاری کیا جو مقبولیت کی بلندی پر پہنچ چکا ہے۔

بچوں کے لیے خود بھی اچھی اچھی کتابیں لکھیں، دوسروں سے لکھوائیں۔

اس کتاب میں اپنی زندگی کے یہ واقعات و حالات شہید حکیم محمد سعید نے

نونہالوں کے اصرار پر خود لکھے ہیں۔

مزے دار اور دل چسپ انداز بیان، سچائی کی مہک اور نونہالوں سے محبت کی شگفتگی

کتاب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ کتاب کا یہ چوتھا ایڈیشن ہے۔

اس میں شہید پاکستان کی صاحبزادی محترمہ سعدیہ راشدہ کا مضمون بھی شامل ہے

جس سے کتاب کی دل چسپی بہت بڑھ گئی ہے۔

اندر کے صفحات میں شہید حکیم صاحب کی نوجوانی کی تصویر۔ خوب صورت رنگین سرورق

صفحات : ۷۲ قیمت : ۶۰ (ساتھ) روپے

ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان، ہمدرد سینٹر، ناظم آباد نمبر ۳، کراچی۔ ۷۴۶۰۰



محمد حذیفہ سلیم، سکرٹڈ



محمد علیان سلیم، سکرٹڈ

تصویر خانہ



محمد طلحہ، کراچی



حذیفہ احمد، کراچی



یحییٰ الرحمان، میرپور خاص



زرین سلیم الدین، حیدرآباد



انوشہ سلیم الدین، حیدرآباد



فاطمہ الزہراء، اسلام آباد



محمد آیان فرمان، لاٹھی

مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

۶۷

ماہنامہ ہمدرد نونہال

مسکراتی لکیریں




بجسٹریٹ (ملزم کے باپ سے): "تم نے اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کیوں نہیں کی؟"

باپ: "جناب! تربیت تو اچھی کی تھی، لیکن نالائق پھر بھی پکڑا کیا۔"

لطیفہ: حفظ لیاقت، گوجرانوالہ

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۶۶ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی



سندھو اپنے باپ کا بہت نافرمان بیٹا تھا۔ اس کی ماں کا انتقال تو اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ اکلوتا تھا، اس لیے باپ کے لاڈ پیار سے وہ بہت بگڑ گیا تھا۔ اس کے باپ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ کم زوری کی وجہ سے وہ بے چارہ زیادہ تر بستر پر پڑا رہتا تھا۔ اس وقت اس کو اپنے بیٹے کی بہت ضرورت تھی، لیکن اب سندھو کو گاؤں چھوڑ کر شہر جانے کی پڑی تھی۔ اس کے باپ نے اسے شہر جانے سے بہت منع کیا، لیکن وہ نہ مانا۔ باپ جانتا تھا کہ سندھو بے وقوف ہے اور شہر میں کام نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ کسان ہیں۔ سندھو بس کھیتی باڑی ہی کر سکتا ہے۔

ماہنامہ ہمدرد نوںہال

۶۹

مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✧ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✧ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✧ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✧ سپریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کپیر بیڈ کوالٹی
- ✧ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ری شیخ
- ✧ ایڈ قمری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیا جاتا
- ✧ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو م ایبل لنک
- ✧ ڈاؤن لوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✧ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✧ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ری شیخ
- ✧ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✧ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✧ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب فورٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے

↳ ڈاؤن لوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

↳ ڈاؤن لوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤن لوڈ کریں www.paksociety.com

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan

Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1



اسے پیاس لگی۔ اس نے اپنے ساتھ لایا ہوا پانی پیا تو وہ اسے بہت گرم لگا۔ دھوپ کی شدت سے پانی گرم ہو چکا تھا۔ نزدیک ہی ایک تالاب تھا۔ سندھو کو اپنے باپ کی نصیحت یاد آئی، اس نے سوچا کہ تالاب کا پانی چکھنا چاہیے۔ اسے ڈر بھی تھا کہ کچھ ہو نہ جائے۔ ڈرتے ڈرتے وہ تالاب کے پاس گیا اور پانی میں ہاتھ ڈال کر دیکھا۔ تالاب کا پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ ”اُف اتنا ٹھنڈا پانی“ اس کے منہ سے نکلا بس پھر کیا تھا، اس نے ہاتھ سے خوب سیر ہو کر تالاب کا پانی پی لیا۔ پانی بہت میٹھا بھی تھا۔ اسے مزہ آ گیا۔ اپنے باپ کی نصیحت اسے بالکل فضول معلوم ہوئی۔ اس نے سوچا کہ بابا بوڑھا کسان تھا۔ اسے کسی چیز کے بارے میں بھلا کیا پتا۔ یہ سوچ کر اس نے دوبارہ اپنا سفر شروع کیا۔ گھوڑا بھی تازہ دم ہو چکا تھا اور خوب تیز دوڑ رہا تھا۔ جنگل ختم ہونے

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۷۱ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

”بابا! مجھے ہر حال میں شہر جانا ہے۔“ ایک دن سندھو نے آخری فیصلہ سنا ڈالا۔ اس کے باپ نے اس سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے تین نصیحتیں کیں۔ اس نے کہا: ”بیٹا! اب میں تم کو نہیں روکوں گا، مگر میری تین باتیں یاد رکھنا، پہلی یہ کہ شہر جانے والے راستے میں جنگل پڑتا ہے، تم اس جنگل کے کسی بھی تالاب کا پانی نہ پینا۔ دوسری بات یہ کہ جنگل کے بعد ایک اور گاؤں سے تمہارا گزر ہوگا، اس گاؤں کے لوگوں پر بھروسہ نہ کرنا۔ تیسری بات یہ کہ شہر میں میرے بھائی، یعنی اپنے چچا نذیر سے مل لینا۔“ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیوں کہ وہ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کی کسی بات پر عمل نہیں کرے گا۔

سندھو کھڑا اپنے باپ کی باتیں بے دلی سے سن رہا تھا۔ ضروری سامان کا تھیلا اس کے کندھے پر لٹکا ہوا تھا۔

”اچھا بابا! میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔“ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے کھیت بھی فروخت کر دیے تھے۔

شہر جانے کی دُھن میں وہ اپنے گھوڑے پر روانہ ہوا، جب کہ گاؤں سے ایک بس بھی شہر جایا کرتی تھی۔ خوشی میں وہ اپنا گھوڑا تیز دوڑا رہا تھا۔ جلد ہی جنگل آ گیا۔ وہ جلد از جلد جنگل پار کرنا چاہتا تھا۔ گرمی بہت زیادہ تھی۔ اس کا دل چاہا کہ کچھ دیر کسی درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کر لیا جائے، چنانچہ وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔

گھوڑا بھی گھاس چرنے لگا۔ تقریباً ایک گھنٹہ آرام کرنے کے بعد وہ اٹھا تو

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۷۰ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

یہ عمدہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ سپریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ری شی
- ✦ ایڈ قری لٹس، لٹس کوئیے کمانے کے لئے شرنک تمہیں کیا جاتا
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو امیل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو پی
- ✦ ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ری شی
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب فورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

↔ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

↔ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہر ری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں www.paksociety.com

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan

Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety

ہی والا تھا کہ اچانک اس کو ایک بڑی تے آئی۔ وہ گھوڑے سے بُری طرح گرا۔ اس کا سر ایک جگہ سے پھٹ گیا اور خون بہ نکلا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ خون روکنے کے لیے اس نے اپنے سر پر گس کر کپڑا باندھ لیا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جنگل کے تالاب میں ایسے آبی پودے تھے، جو پانی کو میٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ زہریلا بھی کر دیتے تھے۔ جانوروں پر تو اثر نہیں ہوتا تھا، مگر انسانوں کے لیے نقصان دہ تھا۔ اُلٹیاں کر کے سندھو کا بُرا حال ہو چکا تھا۔ وہ نڈھال ہو کر گاؤں کے نزدیک پہنچ کر گر پڑا۔

جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اس نے ایک جھونپڑی میں پایا۔ وہ کم زوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے ارد گرد کچھ لوگ کھڑے تھے۔ انہوں نے سندھو کو بتایا کہ وہ پورے ایک دن بے ہوش رہا ہے۔ انہوں نے سندھو سے باتوں باتوں میں معلوم کر لیا کہ وہ کام کی تلاش میں شہر جا رہا ہے۔

”اچھا اچھا، ٹھیک ہے، تم جب تک چاہو یہاں آرام کر سکتے ہو، پھر چلے جانا۔“ ایک دیہاتی نے کہا۔

سندھو اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ وہ دو دن تک اس جھونپڑی میں رہا۔ وہ جھونپڑی گاؤں کے سردار کی تھی۔

دو دن بعد جب سندھو نے وہاں سے نکلنا چاہا تو سردار نے پوچھا: ”شہر میں کیا کرو گے؟“

”جی میں برتنوں کی دکان کھولوں گا۔ سنا ہے وہاں کمائی اچھی ہوتی ہے۔“

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۷۳ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

سندھونے کہا۔

”تم تو کسان ہو، تم کو کار بار کا تجربہ نہیں اور پیسے بھی درکار ہوں گے۔“

سردار نے کہا۔

”پیسے تو ہیں اور کام کروں گا تو تجربہ ہو ہی جائے گا۔“ سندھونے کہا۔

”ٹھیک کہتے ہو، تم شہر جا کر میرے بیٹے حامد سے مل لینا۔ وہ تمہاری مدد کرے

گا۔ یہ لومیرے بیٹے کا پتا ہے۔“ سردار نے کہا اور سندھو کو روانہ کر دیا۔ سندھو سوچ

رہا تھا کہ گاؤں کا سردار کتنا اچھا ہے، اس نے میری مشکل آسان کر دی۔

سندھونے رپے اپنے گرتے کی اندرونی جیب میں چھپائے ہوئے تھے، لیکن

اب وہ سردار کے بیٹے کو تمام رقم دکھا چکا تھا۔

سردار کے بیٹے نے سندھو کو جلد ہی ایک دکان کرائے پر دلوادی اور اسے

برتنوں کی خریداری کے لیے ساتھ لے کر چل دیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ

ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور سندھو کی تمام رقم لے کر فرار ہو گئے۔ سندھو کا بُرا حال

ہو گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا اور گھبرا گیا کہ اب کیا ہوگا۔ حامد نے اسے دلاسا دیا کہ

سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ لوگ تھانے گئے اور رپورٹ لکھوادی۔

حامد نے سندھو کو یقین دلایا: ”ڈاکو پکڑے جائیں گے تم ابھی ہوٹل جا کر آرام کرو

میں کل آ کر تم سے ملوں گا۔“

لیکن وہ پھر کبھی واپس نہ آیا۔ دراصل یہ گاؤں کے سردار کی چال تھی۔ انہوں نے

ہی سندھو کو لوٹا تھا۔ اب سندھو کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ہوٹل والوں نے بھی اس کو پیسے نہ

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۷۴ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

ہونے کی وجہ سے نکال دیا۔ جو دکان اس نے کرائے پر لی تھی، وہ بھی مالک نے واپس لے لی۔

اب سندھو خالی ہاتھ تھا۔ اب اس کو اپنے باپ کی نصیحتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس

نے اپنی عادت کے مطابق اپنے باپ کی بات نہ مان کر نقصان اٹھایا تھا۔ اسے شدت

سے باپ کی یاد آ رہی تھی۔ اب یہ احساس ہو رہا تھا کہ اسے اپنے بیمار باپ کی تیمار

داری کرنا چاہیے تھی، مگر وہ دولت کی لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔

اب اس نے واپس گاؤں جانے کی ٹھانی اور سوچا کہ ہمیشہ باپ کی خدمت

کروں گا۔ وہ ایک نئے عزم سے اٹھا، لیکن اب اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ گھوڑا بھی

فروخت کر چکا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے باپ نے اپنے بھائی نذیر سے ملنے کو کہا

تھا۔ اس بار اس نے ویسا ہی کیا اور پیدل ہی اپنے چچا سے ملنے چلا گیا۔ نذیر چاچا نے

اس کا پرتپاک استقبال کیا اور اس سے پہلے کہ سندھو کچھ کہتا، نذیر چاچا نے اسے بتایا

کہ تمہارے باپ کی طرف سے ایک خط ملا تھا، جس میں لکھا تھا کہ میرا بیٹا لٹ کر

تمہارے پاس آئے گا اور تم اس کو کچھ پیسے دے کر واپس میرے پاس گاؤں بھیج دینا۔

سندھو کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو اُمڈ آئے۔ بس پھر وہ

وہاں ایک پل نہ رکا اور نذیر چاچا سے کچھ پیسے لے کر واپس اپنے گاؤں جانے والی

بس میں بیٹھ گیا۔ آٹھ گھنٹے کے سفر کے بعد وہ واپس اپنے گھر پہنچ چکا تھا، جہاں اب

تالا لگا ہوا تھا۔

سندھو کو دیکھ کر اس کے پڑوسی نے بتایا کہ اس کے جانے کے ایک ہفتے بعد ہی

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۷۵ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM



لکھنے والے نونہال

نونہال ادیب

فائزہ کامل، کراچی سیدہ مبینہ فاطمہ عابدی، پنڈ دادن خان
 یسرئی حبیب، کراچی عزیزہ راؤ عبدالغفار، کراچی
 محمد شہریار گوندل، بہاول نگر اویس نورل گڈانی میر پور ماتھیلو
 بلال سہیل، کراچی

ہونے والا تعمیری سامان پاکستانی ہے۔ یہ مینار ۱۹۶ فیٹ ۱۶ انچ بلند ہے۔ مینار کا نچلا حصہ پتھر یوں والے پھول کی شکل کا ہے۔ مینار کے اوپر جانے کے لیے سیڑھیوں کے علاوہ لفٹ بھی لگائی گئی ہے۔

مینار کے ساتھ ایک بہت بڑا پارک ہے جس میں شالیمار باغ کی طرح کے فوارے اور چبوترے بنائے گئے ہیں۔ یہاں پر مختلف قسم کے پودے اور درخت ہیں۔ اس پارک اور مینار پر روشنی کا خاص انتظام کیا گیا ہے اور رات کے وقت یہ تمام علاقہ روشنیوں کا ایک خوب صورت منظر پیش کرتا ہے۔

مینار پاکستان فائزہ کامل، کراچی

مینار پاکستان ایک تاریخی یادگار کے ساتھ ساتھ ایک بہترین تفریح گاہ بھی ہے۔ مینار پاکستان کا ڈیزائن ترکی میں رہنے والے ایک مشہور روسی مسلمان انجینئر ”نصر الدین مرات خان“ نے تیار کیا تھا۔ میاں عبدالخالق اینڈ کمپنی نے اسے تعمیر کیا۔

تعمیر کا کام ۲۳ مارچ ۱۹۶۰ء سے شروع ہوا اور ۲۶ جولائی ۱۹۶۷ء کو مکمل ہوا۔ اس مینار کا افتتاح بھی عوام نے کیا۔ اس میں استعمال

ماہنامہ ہمدرد نونہال مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور مرتے وقت وہ سندھ کو بہت یاد کر رہا تھا۔
 ”سندھو! تمہارا باپ تم سے بہت پیار کرتا تھا۔“ پڑوسی نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔

سندھو پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ بوجھل قدموں سے پڑوسی کے ساتھ اپنے باپ کی قبر پر آیا اور زار و قطار رونے لگا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سندھو کی دنیا اُجڑ چکی تھی۔ باپ کی قبر کے نزدیک ایک گھنے درخت کا ٹھنڈا سایہ سندھو پر پڑ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا باپ اسے تسلیاں دے رہا ہو۔

☆
 آپ کی تحریر کیوں نہیں چھپتی؟
 اس لیے کہ تحریر: ♦ دل چسپ نہیں تھی۔ ♦ ہا متعص نہیں تھی۔ ♦ طویل تھی۔ ♦ صحیح الفاظ میں نہیں تھی۔ ♦ صاف صاف نہیں لکھی تھی۔ ♦ نپٹل سے لکھی تھی۔ ♦ ایک سطر چھوڑ کر نہیں لکھی تھی۔ ♦ سطر کے دونوں طرف لکھی تھی۔ ♦ نام اور پتا صاف نہیں لکھا تھا۔ ♦ اصل کے بجائے فونو کاپی بھیجی تھی۔ ♦ نونہالوں کے لیے مناسب نہیں تھی۔ ♦ پہلے کہیں چھپ چکی تھی۔ ♦ معلوماتی تحریروں کے بارے میں یہ نہیں لکھا تھا کہ معلومات کہاں سے لی ہیں۔ ♦ نصابی کتاب سے بھیجی تھی۔ ♦ چھوٹی چھوٹی کئی چیزیں مثلاً شعر، لطیفہ، اقوال وغیرہ ایک ہی صفحہ پر لکھے تھے۔

تحریر چھپوانے والے نونہال یاد رکھیں کہ
 ♦ ہر تحریر کے نیچے نام پتا صاف صاف لکھا ہو۔ ♦ کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر ہرگز نہ لکھیے۔ ♦ تحریر بیچنے سے پہلے یہ نہ پوچھیں کہ ”کیا یہ چھپ جائے گی؟“ ♦ مختصر صاف لکھی ہوئی تحریر کے باری جلد آتی ہے۔ ♦ نظم کسی بڑے سے اصلاح کر کے بھیجیے۔ ♦ نونہال مسودہ کے لیے تصویر کم از کم کاپی سائز کے سفید موٹے کاغذ پر گہرے رنگوں میں بنی ہو۔ ♦ تصویر کے اوپر نام نہ لکھیے بلکہ تصویر کے نیچے لکھیے۔ ♦ تصویر خانہ کے لیے بھیجی گئی تصویریں جب ماہرین مسٹر درویش ہیں تو وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ واپس منگوانا چاہتے ہوں تو پتے کے ساتھ جوابی لفافہ ساتھ بھیجیے۔ ♦ تصویر کے نیچے پتے کا نام اور جگہ کا نام ضرور لکھیے۔ ♦ بیت بازی کا ہر شعر الگ کاغذ پر ٹھیک ٹھیک لکھ کر شاعر کا صحیح نام ضرور لکھیے۔ ♦ ہنسی گھر کے لیے ہر لطیفہ الگ کاغذ پر لکھیے۔ ♦ لطیفے گھرے پتے نہ ہوں۔ ♦ روشن خیالات کے لیے ہر قول الگ کاغذ پر لکھیے۔ ♦ قول بہت مشکل نہ ہو۔ ♦ علم درستی کے لیے جہاں سے بھی کوئی ٹکڑا لیا ہو، اس کا حوالہ اور مصنف کا نام ضرور لکھیے۔ ♦ تحریر کسی مخصوص فرم، طبقے یا کنگی قانون کے خلاف نہ ہو۔ ♦ طنزیہ اور مزاحیہ مضمون شائستہ ہو، کسی کا مذاق اڑانے یا دل دکھانے والا نہ ہو۔ ♦ نونہال یا امتحان کھانی نہ بھیجیں۔ ♦ تحریر کی نقل اپنے پاس رکھیے تاکہ چھپنے کے بعد ملا کر دیکھ سکیں کہ تحریر میں کیا کیا تبدیلی کی گئی ہے۔ ♦ اشاعت سے معذرت میں صرف کہانوں اور مضامین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ♦ باقی چھوٹی چھوٹی تحریریں ناقابل اشاعت ہونے پر ضائع کر دی جاتی ہیں۔ ♦ تحریر، تصویر وغیرہ ارسال کرنے کا طریقہ وہی ہے جو خط بھیجے گا ہے۔ ♦ کوپن اور کسی بھی تحریر پر صرف ایک نام لکھیے۔ ♦ اچھی تحریر لکھنے کے لیے زیادہ مطالعہ اور مسلسل محنت بہت ضروری ہے۔ (ادارہ)

ماہنامہ ہمدرد نونہال ۷۶ مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

شیخ سعدی کی حکایات

محمد شہریار گوندل، بہاول نگر

شیخ سعدی کا اصل نام ابو محمد مصلح الدین

مشرف ابن عبداللہ تھا۔ وہ ۱۱۸۳ء میں شیراز میں

پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال

ہو گیا۔ انھوں نے اسلام، سائنس، تاریخ، عربی

اور ادب کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے مکہ اور

مدینہ سمیت کئی جگہوں کی سیاحت بھی کی۔

شیخ سعدی کو عالمی شہرت ان کی دو کتابوں

”بوستاں“ اور ”گلستاں“ نے دی۔ یہ کتابیں

آپ کی زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہیں۔

شیخ سعدی کے کچھ اقوال یہ ہیں:

☆ جو طالب علم استاد کی سختیاں نہ جھیلے، اسے

زمانے کی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔

☆ اگر روزی کا انحصار عقل پر ہوتا تو بے وقوف

ہمیشہ تنگ دست رہتے۔

☆ دشمن سے ہر وقت بچو اور دوست سے اس

وقت جب وہ تمہاری تعریف کرے۔

آپ چودھری صاحب کی بیگم ہیں اور

چودھری صاحب کی گردن پر ذمے داریوں

کا جو بوجھ ہے، وہ کم کرتی ہیں اس لیے یہ

گردن آپ کے لیے۔“

دونوں ٹانگیں کاٹ کر دونوں بیٹوں کو

دے دیں: ”بیٹو! یہ دونوں ٹانگیں آپ کے

لیے ہیں، کیوں کہ آپ دونوں چودھری

صاحب کی ٹانگیں ہیں اور بڑے ہو کر اپنے

والد صاحب کا سہارا بنو گے۔“

پھر دونوں ”پڑ“ کاٹ کر لڑکیوں کو دے

کر کہا: ”آپ کی مثال پردوں جیسی ہے،

کیوں کہ انھی پردوں سے اڑ آپ کو اپنے اصل

گھر جانا ہے اور ان شاء اللہ آپ وہاں اپنے

خاندان کا سر نیچے نہیں جھکنے دیں گی۔“

چودھری صاحب اس تقسیم سے بہت

خوش ہوئے اور اپنے مرغے کا حصہ کسان کو

دے دیا۔ اس کے علاوہ بہت سارا انعام

دے کر رخصت کر دیا۔

اچانک کسان کو خیال آیا کہ وہ یہ مرغا

گاؤں کے چودھری کو تحفے کے طور پر پیش

کر دے۔ چودھری اسے کچھ نہ کچھ ضرور دے

گا، جس سے اس کا چند دن گزارا ہو جائے گا۔

اس نے جلدی سے مرغے کو اٹھایا اور چودھری

کی حویلی کی طرف چل پڑا۔ گاؤں کا چودھری

بہت اچھا انسان تھا۔ کسان نے ذبح کیا ہوا

مرغا چودھری کو دیا تو اس نے کہا: ”بھئی ہم

سب گھر والے گل ملا کر چھ لوگ ہیں۔ ایک

میں، ایک میری بیوی، دو میری بیٹیاں اور

دو میرے بیٹے۔ تم یہ مرغا ہم سب میں انصاف

کے ساتھ تقسیم کر دو۔“

کسان بہت عقل مند تھا۔ اس نے

مرغے کا سر چودھری کو دے کر کہا: ”جناب والا!

آپ چوں کہ اس گھر کے سرپرست ہیں اور

سرپرست کا سر ہمیشہ اونچا رہتا ہے، اس لیے

مرغے کا سر آپ کا ہوا۔“

گردن چودھری کو دے کر کہا: ”چوں کہ

مینار سے لاہور شہر کا نظارہ بہت خوب صورت

لگتا ہے۔ ہر سال ۲۳ مارچ کو مینار رنگ برنگی

روشنیوں سے دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے جسے

دیکھنے کے لیے نہ صرف لاہور، بلکہ دوسرے

شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں۔

عقل مند کسان

سیرٹی حبیب، کراچی

ایک کسان بہت اچھے اخلاق کا مالک

تھا۔ گاؤں میں سیلاب آنے کی وجہ سے اس کی

فصل خراب ہو گئی اور زمین کاشت کے قابل نہ

رہی۔ اس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں

پھیلایا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے گھر کا سارا

سامان ختم ہو گیا۔ اب اس کے پاس صرف ایک

مرغا تھا۔ اس نے مرغے کو حلال کیا اور اپنی

بیوی سے کہا: ”ہمارے پاس اس مرغے کے

علاوہ اور کوئی چیز نہیں بچی، ذرا اسے پکالو۔“

اس کی بیوی نے کہا: ”کیسے پکالوں، نہ

گھر میں تیل ہے نہ مسالا۔“

ماہنامہ ہمدرد نونہال

۷۹

مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

۷۸

مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

ماہنامہ ہمدرد نونہال

☆ عمر کی درازی کا راز صبر اور قناعت میں پوشیدہ ہے۔

☆ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اُتار سکتی ہیں۔

شیخ سعدی نے مختصر اور جامع اخلاقی کہانیاں دل کو چھو لینے والے انداز میں بیان کی ہیں۔ ان کی ایک حکایت میں بیان ہے کہ

ایک مرید نے اپنے مرشد سے کہا: ”لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں اور بے وقت آ کر میرا وقت ضائع کرتے ہیں۔“

مرشد نے کہا: ”ان میں سے جو غریب ہیں، انہیں قرض دے دو اور جو امیر ہیں ان سے کچھ مانگ لو، پھر کوئی تمہارے پاس نہ آئے گا۔“

ایک اور حکایت لکھتے ہیں کہ ایک مسافر ریگستان میں راستہ بھول گیا۔ بد قسمتی سے اس کے پاس کھانا بھی ختم ہو گیا۔ وہ بھوک سے مرنے لگا۔ اس کے پاس ڈھیر سا راسونا اور چاندی تھی۔ اس نے ریت پر سونا اور چاندی

بکھیر کر یہ جملہ لکھ دیا: ”مال و دولت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اگر سونے کی جگہ میرے پاس شاہجہاں ہوتا تو وہ زیادہ بہتر تھا۔“

ان کی وفات سے متعلق مختلف روایات جن کے مطابق شیخ سعدی ۱۲۸۳ء یا ۱۲۹۱ء کو وفات پا گئے۔ آپ کا مزار ایران کے شہر شیراز میں ہے۔

چھوٹوں اور بڑوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی اور خوش ذائقہ آئس کریم ہے۔ چھوٹے ہی نہیں بڑے بھی اس کے دیوانے ہوتے ہیں۔ یہ مختلف رنگوں اور ذائقوں میں ملتی ہے اور تمام گرمیوں لطف دیتی ہیں۔ چین کے لوگ صدیوں پہلے دودھ اور برف کو جما کر آئس کریم بناتے تھے۔ ۱۲۷۱ء میں مارکو پولو اپنے بھائی اور والد کے ساتھ

سیدہ مبینہ فاطمہ عابدی، پنڈدادن خان گرمیوں کا مہینا شروع ہوتے ہی جو چیز چھوٹوں اور بڑوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی اور خوش ذائقہ آئس کریم ہے۔ چھوٹے ہی نہیں بڑے بھی اس کے دیوانے ہوتے ہیں۔ یہ مختلف رنگوں اور ذائقوں میں ملتی ہے اور تمام گرمیوں لطف دیتی ہیں۔ چین کے لوگ صدیوں پہلے دودھ اور برف کو جما کر آئس کریم بناتے تھے۔ ۱۲۷۱ء میں مارکو پولو اپنے بھائی اور والد کے ساتھ

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۸۰ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

چین آیا تو اس نے حیرت سے دیکھا کہ چین میں ہر جگہ جمی ہوئی برف پک رہی ہے۔ دراصل یہ جمی ہوئی برف دودھ اور پھلوں کا عرق تھا۔ مارکو پولو اس تحفے کو اٹلی لایا۔ اس طرح مارکو پولو نے سات سو برس پہلے سفر کرتے ہوئے دنیا کو آئس کریم کا تحفہ دیا۔

پھر یہ پورے یورپ میں مشہور ہو گئی۔ حکمران برف پوش پہاڑوں سے لائی ہوئی برف میں شہد اور پھلوں کا رس شامل کر کے کھاتے تھے۔ ۱۲۷۰ء میں فرانس کے ایک باشندے نے پیرس میں پہلی مرتبہ آئس کریم بار کھولا۔ پھر تو پوری دنیا میں آئس کریم بار کھلنے لگے۔ سترہویں صدی میں آئس کریم امریکا میں ایک پسندیدہ چیز بن گئی۔

۱۸۵۱ء میں امریکا میں پہلی مرتبہ آئس کریم کا پلانٹ لگایا گیا۔ یوں آئس کریم امریکا اور پوری دنیا کے گھروں میں کھائی جانے لگی۔ اچھی آئس کریم کیلشیم، پروٹین، وٹامن اے اور فاسفورس کی کمی کو پورا کرتی ہے۔

آئس کریم گرمیوں میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے، لیکن اس کے دیوانے اسے گرمیوں اور سردیوں دونوں موسموں میں کھاتے ہیں۔ آج کل دنیا کے ہر ملک میں ہزاروں آئس کریم کی دکانیں ہیں، چاہے کوئی بھی موقع یا تقریب ہو آئس کریم کا ہونا لازمی ہو گیا ہے، کیوں کہ بچے اور بڑے سبھی آئس کریم کو خوش ہو کر کھاتے ہیں۔ خاص کر بچے تو بہت خوش ہو کر کھاتے ہیں، لیکن آئس کریم کا بہت زیادہ کھانا بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس لیے چھوٹے بڑے سب کو چاہیے کہ اس کو مناسب مقدار میں کھائیں جو کہ صحت کے لیے بھی بہتر ہے۔

ایان میاں کا وعدہ

عززہ راؤ عبدالغفار، کراچی

گھر کے سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے کہ اچانک

ماہنامہ ہمدرد نونہال

۸۱

مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 f PAKSOCIETY

پڑھیں گے نہیں تو ڈاکٹر کیسے بنیں گے۔“ فکر مت کریں ایان میاں! آپ کے ابو کو تو ہم
 ”تو دادا جان! کیا میں رسالے پڑھنا اس رپورٹ کی ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے۔“
 چھوڑ دوں؟“ ایان نے پوچھا۔

”نہیں بیٹا!“ دادا جان نے جواب دیا: ”ہانیہ کو بھی منع کریں نا، دادا جان!“
 ”یہ میں نے کب کہا؟ اعتدال کے ساتھ ہانیہ نے شرارت سے ایان کو دیکھا اور
 پڑھو۔ کھیل، پڑھائی، آرام، رسالے، بولی: ”ہاں میں بھی نہیں بتاؤں گی اگر آپ مجھے
 غیر نصابی کتب اور دیگر معمولات سب کو دو عدد مزے دار چاکلیٹ کھلانے کا وعدہ کریں تو۔“
 مناسب وقت دو اور پڑھائی کے وقت توجہ سے ایان نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولا: ”چلو
 سے پڑھو، ان شاء اللہ تم کام یاب رہو گے۔“ ٹھیک ہے، وعدہ رہا۔“ اس کے ساتھ ہی
 کچھ دیر خاموشی رہی پھر ایان نے کہا: کمرے میں سب کے قبضے گونجنے لگے۔

آگے بڑھنا ہے

شاعر: اولیس نورل گڈانی میر پور ماٹھیلو

اک وعدہ آج یہ کرنا ہے
 ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہے
 ہم غفلت کی نیند سوئے بہت
 اس نیند سے ہمیں اب جگنا ہے
 علم کا زیور پہنیں گے ہم
 شوق سے ہمیں اب پڑھنا ہے

”ٹھیک ہے دادا جان! میں ایسا ہی کروں گا اور
 اگلی بار آپ کو بہت اچھی ٹیسٹ رپورٹ دوں گا۔“
 دادی جان نے ایان کو چمکارتے ہوئے
 کہا: ”بڑا سمجھ دار ہے میرا بیٹا، خدا خوش رکھے۔“
 ایان نے دادا جان کی طرف دیکھ کر کہا:
 ”دادا جان! آپ یہ رپورٹ ابو کو تو نہیں
 دیکھائیں گے نا؟“

دادا جان نے جواب دیا: ”آپ بالکل

”وہ..... وہ..... دادا جان!“ ایان ہکھلایا۔
 ہانیہ کی تیز آواز آئی: ”دادا جان.....!“
 دادا جان.....! یہ دیکھیں۔“

”وہ وہ کیا؟“ اتنی تیز آواز گونجی:
 ”صاف جواب دو میاں صاحبزادے! تمہاری
 سب کی نظریں دروازے کی طرف لگ
 گئیں۔ اگلے ہی لمحے ہانیہ ایک ہاتھ میں ایک
 کاغذ لہراتی بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی، اس
 توجہ ان دنوں رسالوں اور کہانیوں پر زیادہ ہے،
 اس لیے پڑھائی کیا خاک کرو گے۔“

”جی دادا جان!“ ہانیہ کی آواز آئی:
 ”ایان بھیا کی الماری ڈھیروں رسالوں اور
 کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ جب دیکھو
 انہی میں گم ہوتے ہیں۔“ ہانیہ کہتی چلی گئی۔

ایان نے ہانیہ کو گھورا اور بولا: ”دادا جان!
 ایان گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں
 آ رہا تھا کہ وہ ہانیہ سے رپورٹ کیسے لے۔
 دادا جان نے ہانیہ کے ہاتھ سے رپورٹ لی اور
 کوئی بُری بات تو نہیں ہے۔ ان سے
 معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اردو بھی
 اچھی ہو جاتی ہے۔“

دادا جان بولے: ”بالکل ٹھیک کہا آپ
 جو توجہ سے رپورٹ پڑھ رہے تھے۔

”ہوں.....“ آخر دادا جان نے سر
 اٹھایا: ”کیا بات ہے ایان میاں! اتنے کم نمبر!
 نے ایان بیٹا! لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ اگر آپ
 پورا دن انہی رسالوں اور کہانیوں کے لیے
 وقف کر دیں گے تو پڑھائی کب کریں گے اور
 آپ تو پڑھائی میں کافی تیز تھے۔“

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۸۲ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۸۳ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

ہر منزل کو اب چھونا ہے
بس قدم بڑھا کے چلنا ہے
قدر کرو تم وقت کی اویس
گر ترقی کے زینے پر چڑھنا ہے
ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہے
یہ وعدہ پورا کرنا ہے

جیمس کی توبہ

بلال سہیل، کراچی

جیمس کافی دنوں سے بے روزگار تھا۔
اس نے ہر جگہ کوشش کی تھی، یہاں تک کہ قصبے
سے باہر جا کر بھی کام ڈھونڈا، مگر چوں کہ وہاں
اسے کوئی جانتا نہ تھا، اسی لیے اسے ہر کسی نے
کام دینے سے انکار کر دیا۔ ایک دن وہ اور اس
کا دوست ایک جگہ بیٹھے تھے۔ جیمس نے اپنے
دوست کو اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ اس کا
دوست کچھ دیر سوچتا رہا پھر بولا: ”آہا،
تمہارے مسئلے کا حل مل گیا۔ پھر اس نے جیمس
کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگا۔

چند دن بعد جیمس کے گھر کے باہر ایک بورڈ
لگا نظر آیا، جس پر لکھا تھا: ”مسٹر جیمس سے ہر مسئلے
کا حل معلوم کریں۔“ کچھ ہی دنوں میں پورے
شہر میں مشہور ہو گیا کہ مسٹر جیمس ہر مسئلے کا حل
بتاتے ہیں۔ صبح سویرے ایک آدمی جیمس کے
پاس آیا اور بولا: ”مسٹر جیمس! میرا گھوڑا گم
ہو گیا ہے، بتائیں میں اسے کہاں تلاش کروں۔“
جیمس نے کہا: ”ہمارے قصبے سے مشرق
کی طرف ایک گھاس سے بھرا میدان ہے۔
تمہارا گھوڑا یقیناً وہیں ہوگا۔“
وہ شخص بہت خوش ہوا اور جیمس کو فیس ادا
کر کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بڑھیا
جیمس کے پاس آئی اور بولی: ”بیٹا! کیا تم مجھے
گلاب پور گاؤں کا راستہ بتا سکتے ہو۔“
جیمس بولا: ”اماں جی! گلاب پور تو
ہمارے قصبے سے شمال کی طرف واقع ہے۔“
بڑھیا نے جیمس کا شکریہ ادا کیا اور فیس
دے کر چلی گئی۔

”مسٹر جیمس“ کسی نے زور سے آواز دی۔
جیمس نے گھر سے نکل کر دیکھا تو ایک
عورت تیزی سے اس کے پاس چلی آ رہی تھی۔
قریب آ کر وہ بولی: ”مسٹر جیمس! میری بیٹی کا
ہاتھ جل گیا ہے، بتائیں میں کیا کروں؟“
جیمس نے پوچھا: ”تمہاری بیٹی کا ہاتھ
آگ سے جلا ہے؟“

عورت بولی: ”ہاں۔“

جیمس نے مشورہ دیا: ”آگ گرم ہوتی ہے،
اس لیے تم اس کا ہاتھ ٹھنڈے پانی سے دھلاؤ، دیکھنا
تمہاری بیٹی کا زخم جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔“ وہ
عورت بہت خوش ہوئی، اس نے جیمس کی فیس ہاتھ
میں پکڑائی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔

دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا، جیمس
نے گھر کا دروازہ بند کیا اور ہوٹل کی جانب
چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک
آدمی دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کی
سانس بڑی طرح پھولی ہوئی تھی۔

”کیا آپ ہی مسٹر جیمس ہیں۔“ اس نے
پھولی ہوئی سانسوں میں پوچھا۔
جیمس نے ہاں میں سر ہلایا۔
اس آدمی نے اپنی سانس درست کی
اور پھر بولا: ”مسٹر جیمس! میری بھینس نہر
میں گر گئی ہے، بتائیں ہم اسے کس طرح
نکالیں۔“

جیمس نے کہا: ”یہ تو بہت ہی آسان سی
بات ہے، تم لوگوں میں سے کوئی ایک شخص نہر
میں اتر کر بھینس کی گردن، پیٹ یا کسی ایک
ٹانگ میں رسی کا ایک سرا باندھ آئے، پھر تم
سب مل کر زور لگاؤ، اس طرح تمہاری بھینس
باہر آ جائے گی۔“

اس آدمی نے جیمس کا شکریہ ادا کیا اور
فیس دے کر دوڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔
اگلی صبح جیمس اپنے گھر میں ناشتا کر رہا تھا
کہ اسے گھر کے باہر کچھ شور سنائی گیا۔ وہ اٹھ
کر باہر دیکھنے گیا کہ کیا معاملہ ہے۔ جیسے ہی وہ

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۸۳ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۸۵ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

بیت بازی

کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی
یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا

شاعر: بشیر بدر
پند: ۳۵۲ غار، لمبر

میں نے جب شیشے کی اک دیوار کھینچی آنکھ میں
دیر تک ہر ہاتھ میں پتھر نظر آتے رہے

شاعر: بشیر سیلی
پند: سہیل آفریدی

یہ سوچ کر ہم اور بھی نکلے نہیں گھر سے
کیا جانے وہ کب لوٹ کر آجائے سفر سے

شاعر: الیاس شاداں
پند: پارس احمد خان، اورنگی ٹاؤن

جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھیں دھڑکنیں
وہ بولنے لگے تو ہمیں پر برس پڑے

شاعر: افضل منہاس
پند: محمد بلال حیدر، نارنگی کراچی

ممکن ہے کہ صدیوں بھی نظر آئے نہ سورج
اس بار اندھیرا مرے اندر سے اٹھا ہے

شاعر: انس مہین
پند: علی حیدر لاشاری، لاکڑا

ان ہی لوگوں سے مل کر خوش ہوا تھا
ان ہی لوگوں سے ڈرتا پھر رہا ہوں

شاعر: محمد طوی
پند: ماقب خان ہدون، ایبٹ آباد

دیکھ کر منہ بھی پھیر لیتے ہیں
یہ ہے ہمارے دوستوں کی پہچان

شاعر: غادرلی
پند: سیدہ اریہ بٹول، کراچی

نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

شاعر: مرد اعاب
پند: امرک، ایبٹ آباد

دکھ درد میں، آفت میں، جنجال میں خوش ہیں
پورے ہیں وہی مرد، جو ہر حال میں خوش ہیں

شاعر: نظیر اکبر آبادی
پند: محمد جاگیر مہاس جوئیہ

یوں جو نکلتا ہے آسماں کو ٹو
کوئی رہتا ہے آسماں میں کیا؟

شاعر: جون الیما
پند: اختر حمید، ملتان

آیا ہی تھا ابھی مرے لب پر وفا کا نام
کچھ دوستوں نے ہاتھ میں پتھر اٹھالیے

شاعر: تیس صفائی
پند: عہدہ حامد

مری روح کی حقیقت، مرے آنسوؤں سے پوچھو
مرا مجلسی تبسم، مرا ترجمان نہیں ہے

شاعر: مصطفیٰ دیدی
پند: وہاب انصاری، سکر

میں زندگی کی دعا مانگنے لگا ہوں بہت
جو ہو سکے تو دعاؤں کو بے اثر کر دے

شاعر: انوار مارف
پند: کول قاطر اللہ علی، کراچی

وحشتیں کچھ اس طرح اپنا مقدر ہو گئیں
ہم جہاں پہنچے، ہمارے ساتھ دیرانے گئے

شاعر: خاطر غزوی
پند: محمود احمد، نورالائی

کھا لیتا تو؟“ یہ کہتے ہوئے بڑھیا نے اپنی
لاٹھی اٹھالی۔

جیمس کے دماغ میں پھر ایک دھماکا ہوا
”گلاب پور تو جنوب میں واقع ہے۔“

اس عورت کی بھی چلانے کی آواز آئی:
”ٹھگ کہیں کے! ٹھنڈے پانی سے زخم دھویا تو

میری بیٹی کا ہاتھ مزید خراب ہو گیا۔ اس دھوکے باز
نے ہم سب کو غلط مشورے دیے ہیں۔

”اس نے مجھے بھی غلط مشورہ دیا۔“ جو
آدمی بھینس نکالنے کے بارے میں مشورہ

کرنے آیا تھا، اس نے بھی چلا کر کہا: ”رسی
کھینچنے سے بھینس اوپر آنے کے بجائے ایک

جھٹکے سے پھڑنہر میں گر گئی اور جھٹکا لگنے کی وجہ
سے کچھ لوگ بھی نہر میں گر کر زخمی ہو گئے اور

ان میں میرا بیٹا بھی تھا۔
بس پھر کیا تھا جیمس کے اوپر لاتوں، مکوں اور

گھونسوں کی گویا بارش ہو گئی اس حادثے کے بعد
جیمس نے ایسا کوئی بھی کام کرنے سے توبہ کر لی۔ ☆

گھر سے باہر نکلا، اسے ایک آدمی نے دبوچ
لیا۔ یہ وہی آدمی تھا جو جیمس سے اپنے گھوڑے

کے بارے میں مشورہ کرنے آیا تھا۔ وہ بولا:
”جعل ساز! تُو نے مجھے مشرق کی طرف بھیجا

تھا، گھاس والے میدان کی طرف۔ میں مشرق
کی طرف گیا تو مجھے کوئی گھاس سے بھر میدان

بھی نہیں ملا اور اُلٹا میں ریگستان میں بھٹک
گیا۔ بڑی مشکلوں سے میں واپس قصبے میں

پہنچا ہوں۔ اگر میں بھوک، پیاس سے مر جاتا
تو؟“ یہ سنتے ہی جیمس کے دماغ میں دھماکا

ہوا: ”ارے گھاس سے بھرا ہوا میدان تو
جنوب میں واقع ہے۔

بڑھیا بھی آگے بڑھ کر بولی: ”دھوکے باز!
تم نے مجھے گلاب پور کا راستہ شمال کی طرف

بتایا تھا، میں جیسے ہی شمال کی طرف گئی درندوں
کے جنگل میں پھنس گئی۔ مجھے جیسے ہی احساس

ہوا کہ میں درندوں کے جنگل میں ہوں، میں
فوراً وہاں سے بھاگ آئی۔ اگر مجھے کوئی درندہ

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۸۶ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۸۷ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

”پاکستان سے محبت کرو۔ پاکستان کی تعمیر کرو“

ہمدرد نونہال اسمبلی راولپنڈی رپورٹ : رضوان قمر

ہمدرد نونہال اسمبلی راولپنڈی کے اجلاس میں مہمان خصوصی معروف ماہر تعلیم محترمہ نور قریشی تھیں۔ اراکین شوریٰ ہمدرد محترم نعیم اکرم قریشی اور محترم کرنل عبدالحمید آفریدی نے بھی شرکت کی۔ ۹ جنوری ”یوم نونہالان پاکستان“ کے تعلق سے اس بار موضوع یہ مشہور قول سعید تھا:

”پاکستان سے محبت کرو۔ پاکستان کی تعمیر کرو“

اسپیکر اسمبلی، نونہال عائشہ اسلم تھیں۔ تلاوت قرآن مجید اور اس کا ترجمہ نونہال مسکان بٹ اور ساتھی نونہالوں نے پیش کیا۔ نونہال کوئل نیاز نے فرمان رسولؐ اور احمد اظفر نے نذرانہ نعت پیش کیا۔

نونہال مقررین میں عیسا سحر اور سویرا خان شامل تھیں۔ نونہالوں نے شہید حکیم محمد سعید سے اپنی محبت کا بھرپور اظہار کیا اور شان دار الفاظ میں شہید پاکستان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔

قومی صدر ہمدرد نونہال اسمبلی محترمہ سعدیہ راشد نے نونہالوں کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ شہید پاکستان حکیم محمد سعید ہمیشہ بڑی دردمندی کے ساتھ اس بات کا درس دیتے رہے کہ اگر پاکستان ہے تو ہم باعزت بھی ہیں اور آزاد ہیں۔ ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے اور اس کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیے، تاکہ اقوام عالم میں ہم سرفراز و سر بلند رہ سکیں۔

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۸۸ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی



ہمدرد نونہال اسمبلی راولپنڈی میں محترم نعیم اکرم قریشی، محترمہ مسز نور قریشی اور نونہال تقریر کر رہے ہیں۔

محترم نعیم اکرم قریشی نے کہا کہ تمام نونہال اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں۔ استادوں کو چاہیے کہ وہ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی خصوصی توجہ دیں۔ بچے اور آئینے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ نونہال خوب پھلیں پھولیں اور شہید حکیم محمد سعید کا لگا یا ہو ایہ شجر بڑھتا رہے، آمین۔


محترمہ نور قریشی نے کہا کہ نونہالو! اگر آپ خود کو خوب صورت بنانا چاہتے ہیں تو اپنی تعلیم اور اخلاق پر خصوصی توجہ دیں۔ اپنے دل اور نفس پر قابو پائیں۔ اپنے دل کو نفرت سے پاک رکھیں۔ اگر آپ کسی سے نفرت کریں گے تو آپ کو بھی نفرت ہی ملے گی۔

محترم کرنل عبدالحمید آفریدی نے کہا کہ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنا

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۸۹ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

بے جان چیزوں کے احساسات

عبدالرحمان
اگر کوئی آپ سے کہے کہ بے جان چیزیں بھی اپنے بڑے الفاظ کا اثر لیتی ہیں تو یقیناً آپ ہیرت کا اظہار کریں گے، مگر ایک جاپانی محقق "ڈاکٹر مسارو ایوٹو" نے ثابت کر دیا ہے کہ تزیل اور تعریف کرنے سے بے جان چیزوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ "ڈاکٹر مسارو ایوٹو" محقق اور مختلف طریقوں سے علاج کرنے والے ماہر ہیں۔ انہوں نے مادی چیزوں جیسے پانی اور چاول پر انسان کی مثبت اور منفی سوچ کے اثرات پر تحقیق کی ہے۔



ایک تجربے میں ڈاکٹر ایوٹو نے بھنے ہوئے چاولوں سے بھرے تین مرتبان لیے تھے۔ ایک پر "THANK YOU" (شکریہ) دوسرے پر "YOU'RE AN IDIOT" (تم بدتمیز ہو) درج تھا، جب کہ تیسرے مرتبان کو نظر انداز (IGNORED) کر دیا گیا تھا۔ ایک ماہ کے بعد جب مرتبانوں کو کھولا گیا تو پہلے مرتبان کے چاولوں سے خوشبو آ رہی تھی، جس پر شکریہ لکھا تھا۔ جن چاولوں کی "بے عزتی" کی گئی تھی ان کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا اور نظر انداز کیے گئے چاول ٹوٹا شروع ہو گئے تھے۔

☆ ماہنامہ ہمدرد نونہال ۹۳ مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی ☆

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے ہم خاص کیوں ٹھیں :-

- ✧ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✧ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✧ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✧ سپریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✧ عمران میر بزاز مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریچ
- ✧ ایڈ قری لٹس، لٹس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیا جاتا
- ✧ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور رٹریوم ایبل لنک
- ✧ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر پو پو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✧ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✧ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریچ
- ✧ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✧ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✧ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب فورٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

↔ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

↔ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں www.paksociety.com

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan


Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1





سبق

جاوید اقبال



پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

یہ شاندار پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ٹھیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلو ڈنگ
- ✦ سپریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کپی رایت کوالٹی
- ✦ عمران میریٹ از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریچ
- ✦ ایڈ قمری لکس، لکس کوئیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیا جاتا
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو مائیل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو پی
- ✦ ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریچ
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب فورٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

↩ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

↩ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں www.paksociety.com

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan

Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety

جنگل کے باہر تالاب کے کنارے سوکھی جھاڑیوں میں دو بطخیں نر اور پمیل رہتی تھی۔ نر کے پنکھ سفید تھے۔ جب کہ پمیل کے خاکستری۔ نر بہت سمجھ دار، عقل مند اور ذمے دار بطخ تھی، جب کہ پمیل ایک بے پروا اور بے وقوف بطخ تھی۔

ایک دن نر نے سوچا ہمارا بھی ایک گھر ہونا چاہیے، گھر کے نہ ہونے سے ہمیں کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جب برسات ہوتی ہے تو ہم بارش میں بھیگ جاتی

ماہنامہ ہمدرد نوںہال ۹۵ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی



پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✧ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✧ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✧ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✧ سپریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✧ عمران میر بزاز مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریچ
- ✧ ایڈقمری لٹس، لٹس کو ایسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیا جاتا
- ✧ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو مائبل لنک
- ✧ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو پی ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✧ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✧ مشہور معنصفین کی کتب کی مکمل ریچ
- ✧ ہر کتاب کا الگ سیشن
- ✧ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✧ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب فورٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں www.paksociety.com

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan

Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

ہیں۔ جاڑوں میں سردی سے ٹھنھرتی ہیں۔ گرمیوں میں ہمیں دھوپ جلاتی ہے۔ ہر وقت بڑے جانوروں کے حملے کا خطرہ رہتا ہے۔ ہمارا گھر بن جائے گا تو ہم موسموں کی سختیوں اور جانوروں کے خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے۔

اس نے اپنا یہ خیال پمپل کو بتایا اور اس سے کہا: ”آؤ پمپل! گھر بنانے میں میرا ساتھ دو۔ تم تنکے اور سوکھی جھاڑیاں مجھے پکڑاتی جانا، میں انھیں جوڑتی جاؤں گی۔ یوں ہمارا خوب صورت سا گھر بن جائے گا۔“

پمپل بولی: ”نا بابانا، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا۔ تم گھر بنانے کا خیال چھوڑو، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس سے اچھا ہے ہم کسی بنے بنائے گھر پر قبضہ کر لیں۔ یوں ہینگ لگے گی نہ پھٹکری اور ہمیں گھر بھی مل جائے گا۔“

رنے نے کہا: ”لو یوں بھی کبھی ہوا ہے۔ کسی کا گھر بھلا ہمیں کیسے مل جائے گا۔“

”ملے گا کیوں نہیں۔“ پمپل نے چپک کر کہا: ”کیتھی مرغی نے جنگل کی ڈھلان پر اتنا خوب صورت گھر بنایا ہے، ہم اسے وہاں سے نکال کے اس کے گھر پر قبضہ کر لیں گے۔ نہیں تو بلو خرگوش نے جو برگد کی کھو میں گھر بنایا ہوا ہے، اس سے چھین لیں گے۔“

رنے نے کہا: ”نہیں پمپل! یہ اچھی بات نہیں کسی کی محنت سے بنائی ہوئی چیز پہ ہم قبضہ کیوں کریں۔ اپنا گھر ہماری ضرورت ہے ہم خود اپنی محنت سے بنائیں گے۔“

پمپل بولی: ”تو پھر تم اکیلی گھر بنا لو، مجھے تو سخت بھوک لگی ہوئی ہے، میں کچھ کھانے کے لیے جنگل جا رہی ہوں۔“

وہ رکو وہیں چھوڑ کے جنگل کی طرف چل پڑی۔ زحیرانی سے اسے جاتے ہوئے

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۹۷ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

دیکھتی رہی۔ پمپل کے رویے سے اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ میں خود ہی ہمت کرتی ہوں۔ وہ سوکھی جھاڑیاں اور تنکے اکٹھے کرنے لگی۔ وہ ایک تنکا اٹھا کے لاتی، اسے سلیقے سے جوڑتی، پھر ایک خشک جھاڑی لا کے اس سے تنکے کے ساتھ جوڑ دیتی۔ یوں ایک ایک تنکے سے گھر بنا شروع ہو گیا۔ ز شام تک اپنے کام میں لگی رہی۔ شام تک ایک خوب صورت گھر تو بن گیا، مگر ز تھک کر پور پور ہو گئی۔ شام کو پمپل جنگل سے واپس آئی تو گھرتیا ردیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اس بنے بنائے گھر میں حصے دار بن گئی۔ ز نے اسے کچھ نہ کہا۔ وہ تھکی ہوئی تھی، چپکے سے سو گئی۔

ز کے اس اچھے رویے پر بھی پمپل نے اپنے طور طریقے نہ بدلے۔ وہ ویسے ہی بے پروا اور بد سلیقہ رہی۔ سارا دن وہ ادھر ادھر پھرتی رہتی۔ شام کو تالاب کے کچھڑ میں لت پت گھر لوٹ آتی۔ کبھی جانوروں سے لڑ پڑتی۔ اپنے انڈے بھی سنبھال کے نہ رکھتی۔ جنگل جاتی تو وہیں انڈا چھوڑ آتی۔ کبھی تالاب کے کنارے انڈا دے دیتی اور کوئے اس کے انڈے توڑ کے کھا جاتے۔ کبھی قصبے سے آنے والے لڑکے انڈے اٹھا کر لے جاتے۔ ز اگر اسے سمجھاتی تو وہ اس کی بات ایک کان سے سنتی دوسرے کان سے نکال دیتی۔

دن یونہی گزرتے گئے۔ ایک شام ز اور پمپل تالاب کے کنارے اپنے پر سکھار رہی تھیں کہ اوپر سے انھیں ایک چمکتی ہوئی چیز اپنی طرف آتی نظر آئی۔ پمپل نے اسے دیکھ کر ز سے کہا: ”ز! وہ دیکھو ایک ستارہ زمین پر اتر رہا ہے۔ میں اسے پکڑ کے لاتی ہوں، پھر ہم اسے اپنے گھر لے جائیں گے۔ اس چمکتے ستارے سے

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۹۸ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

ہمارا گھر رات کو بھی روشن رہا کرے گا۔“

یہ کہہ کر وہ اس چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے بھاگی۔ ز نے چلا کر کہا: ”رک جاؤ، پمپل! یہ ستارہ نہیں ہے، بھلا کبھی ستارے بھی زمین پر اترے ہیں۔ یہ تو کوئی جگنو ہے۔“

مگر پمپل نے اس کی بات نہ سنی اور ز پکارتی رہ گئی۔

یہ چمکتی ہوئی چیز جس کے پیچھے پمپل بھاگی تھی، واقعی جگنو تھا۔ جگنو روشنی بکھیرتا جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ پمپل چونچ کھولے اس کے پیچھے بھاگی چلی جا رہی تھی۔ جنگل میں پہنچ کر جگنو تو جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں نظروں سے اوجھل ہو گیا اور پمپل اندھیرے میں بھٹکتی رہ گئی۔

کچھ دیر تو وہ جگنو کو ڈھونڈتی رہی، پھر مایوس ہو کر واپس لوٹنے لگی تو راستہ بھول گئی۔ اتنے میں آسمان پر بادل گر جنے لگے اور پھر ٹپ ٹپ بوندیں گرنے لگیں۔ اب تو پمپل بہت گھبرائی۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ بارش تیز ہو گئی۔ بارش کے پانی سے جگہ جگہ کچھڑ ہو گیا تھا۔ پمپل کے پاؤں کچھڑ میں دھسنے لگے۔ اچانک بارش کی بوچھاڑ تیز ہو گئی اور ہوا بھی تیزی سے چلنے لگی۔ اس قدر تیز طوفان نے سب کچھ اُلٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ درختوں کی شاخیں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں۔ پمپل ہوا کے تیز جھونکوں سے کبھی ادھر گرتی، کبھی ادھر۔ وہ اندھیرے میں بھٹکتی ہوئی دلدل میں جا پھنسی۔

ادھر ز ساری رات ڈرتی رہی کہ کہیں پمپل بارش کے پانی میں بہہ کر جھیل میں نہ جا گرے یا دلدل میں نہ جا پھنسنے۔ وہ دعائیں مانگتی رہی کہ خدایا پمپل خیریت سے

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۹۹ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

شہری دفاع

نسرین شاہین

ماضی میں دوران جنگ شہریوں کو عام طور پر دھماکا کرنے اور آگ لگانے والے بموں سے ہی واسطہ پڑتا تھا، مگر دوسری جنگ عظیم میں عام شہریوں کو ایٹم بموں سے بھی واسطہ پڑا۔ زیادہ تر شہری تیسری آبادیوں پر حملے کیے جاتے ہیں۔ ان حملوں سے پھیلنے والی تباہ کاریوں کو دیکھتے ہوئے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات پر غور کیا جانے لگا۔

اس سلسلے میں مختلف پروگرام ترتیب دیے گئے، جن کو شہری دفاع (CIVIL DEFENCE) کا نام دیا گیا۔ جیسے جیسے خطرناک اور جدید ہتھیار سامنے آئے، شہری دفاع کے پروگرام کو ضرورت کے مطابق ڈھالا جاتا رہا، اب یہ پروگرام دنیا بھر میں قومی تحفظ اور سلامتی کا پروگرام بن گیا ہے۔

جب امریکانے جاپان کے دو شہروں، ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم بم گرائے تو وہاں کے شہری تربیت یافتہ نہ تھے، نتیجتاً لاکھوں لوگ مارے گئے، زخمیوں کی بڑی تعداد اس لیے ہلاک ہو گئی کہ انھیں بچانے کے لیے تربیت یافتہ رضا کار موجود نہ تھے۔ ایٹم بم گرنے سے جانی اور مالی نقصان بھی بہت ہوئے۔ فوج کے لیے ہتھیار تیار کرنے والے کارخانے بند ہو گئے۔ خوراک کے ذخیرے اور پانی کی سپلائی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ سامان لانے، لے جانے کے تمام ذرائع ختم

مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

101

ماہنامہ ہمدرد نونہال

لوٹ آئے۔ دعائیں مانگتے مانگتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح وہ اٹھی تو ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بارش رک گئی تھی۔ وہ گھر سے نکلی اور پمپل کی تلاش میں چل پڑی۔ جگہ جگہ بارش کا پانی کھڑا تھا۔ وہ کیچڑ اور پانی میں چلتی ہوئی جھیل کی طرف جانکی۔ ہر طرف اسے ڈھونڈا، مگر پمپل کا کچھ پتا نہ چلا۔ اس نے جھیل کے کنارے بڑے پتھروں کے پیچھے جھانکا، جنگل کی ساری جھاڑیاں چھان ماریں، مگر پمپل اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی دلدل کی طرف آنکلی۔ اچانک اس کی نظر کیچڑ میں کسی چمکتی ہوئی چیز پر پڑی جب وہ قریب گئی تو دیکھا پمپل کیچڑ میں گری پڑی تھی۔ اسے بے حس و حرکت دیکھ کر پہلے تو رعبھی کہ شاید پمپل مر گئی ہے، مگر پھر سانس لینے سے اس کا پَر ہلاتوڑ کی جان میں جان آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر پمپل کو سیدھا کیا اس کے پَروں سے کیچڑ صاف کی، پھر کہیں پمپل نے آنکھ کھولی۔

زکو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہر اسے سہارا دے کر گھر لے آئی۔ گھر آ کر پمپل بیمار ہو گئی۔ ہر اس کی تیمارداری کرتی رہی۔ ایک ہفتے بعد پمپل ٹھیک ہو گئی۔

پمپل اب بہت بدل گئی ہے۔ ہر کی بات نہ مان کر اس نے جو تکلیف اٹھائی تھی، اس سے پمپل نے کافی سبق حاصل کیا۔ اب وہ ہر بات مانتی ہے۔ جنگل میں اسے کوئی جانور ملتا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے: ”پیارے دوست! ستارے زمین پر نہیں اترتے اور ستاروں سے قیمتی وہ دوست ہوتا ہے، جو مشکل وقت میں آپ کے کام آتا ہے۔“

☆☆☆

مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

100

ماہنامہ ہمدرد نونہال

ہو گئے۔ لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے، کھانے کے لیے خوراک اور علاج کے لیے دوائیں بھی نہیں بچیں۔ اگر شہری دفاع کا پروگرام مؤثر طور پر کام کر رہا ہوتا تو بہت سی قیمتی جانیں بچائی جاسکتی ہیں۔

شہری دفاع کی تربیت حاصل کر کے نہ صرف اپنی زندگی بچائی جاسکتی ہے، بلکہ دوسروں کی زندگی کو بھی بچایا جاسکتا ہے۔ شہری دفاع کے اصولوں پر عمل کر کے قدرتی آفات، زلزلوں، طوفانوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے دوران جانی و مالی نقصانات کو کم سے کم کیا جاسکتا ہے۔ شہری دفاع کا آغاز باقاعدہ ادارے کے طور پر نہیں ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہنگامی حالات اور ضرورت کے تحت شہری دفاع کے پروگرام میں تبدیلیاں آتی گئیں۔ دوسری جنگِ عظیم میں ہوائی جہازوں کے ذریعے بم باری سے فوجیوں کو کم اور شہریوں کو زیادہ نقصانات اٹھنا پڑے۔ اس وقت بہت سی رضا کار تنظیمیں اور رفاہی جماعتیں شہریوں کی مدد کے لیے کام کر رہی تھیں، مگر ان کی تعداد کم تھی۔ انہی دنوں آگ لگانے والے بموں کا استعمال بھی ہوا۔ عالمی جنگ میں آگ لگانے والے بموں نے جتنا جانی اور مالی نقصان پہنچایا، اتنا دھماکا خیز بموں سے نہیں ہوا تھا۔ دوسری جنگِ عظیم کے بعد برطانیہ میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ ہر گھر، دفتر، کارخانے، اسکول یا ادارے میں ضرورت کے مطابق پانی سے بھری بالٹیاں اور ریت کی بوریاں بھر کر لازمی رکھی جائیں، تاکہ آگ بجھانے میں مدد مل سکے۔ پہلی جنگِ عظیم میں شہری دفاع کا واضح تصور نہ تھا۔

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۱۰۲ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

جنگ سے پھیلنے والی تباہیوں سے نمٹنے اور دیگر امدادی سرگرمیوں کے لیے باقاعدہ کوئی بھی ادارہ نہیں تھا۔ اس کے بعد شہری دفاع کو تقریباً ہر جگہ اہمیت دی گئی۔ اس سلسلے میں قواعد و ضوابط بھی مرتب کیے گئے۔ بعد میں شہری دفاع کی ایک بین الاقوامی تنظیم انٹرنیشنل سول ڈیفنس آرگنائزیشن قائم کی گئی۔

جس وقت یہ تنظیم قائم ہوئی تھی، اس کے ارکان کی تعداد صرف ۲۵ تھی، اب سیکڑوں میں ہے۔ یہ حقیقت بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان کو سات سال تک اس تنظیم کی صدارت کا اعزاز حاصل رہا ہے۔ شہری دفاع کا محکمہ، جنگ کے دوران ہنگامی حالات کے تحت اپنے پروگرام ترتیب دیتا ہے، لیکن ان پروگراموں میں دیگر آفات اور حادثات سے نمٹنے کے لیے خاصی چک رکھی گئی ہے۔ ہمارے ملک میں شہری دفاع کی تنظیم وفاقی، صوبائی اور ضلعی سطح پر قائم ہے۔ وفاقی تنظیم وزارتِ دفاع کے ماتحت ہے اور ملک کے بڑے بڑے شہروں میں بھی عملی ترتیب فراہم کرتی ہے۔ وفاقی حکومت کا یہ ترتیبی پروگرام ۱۹۵۱ء سے جاری ہے۔ وفاقی تنظیم کے کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور مظفر آباد مراکز پر دس مختلف ترتیبی کورس سال بھر چلتے ہیں۔ جن میں خواتین کی تربیت کے کورسز بھی شامل ہیں۔ شہری دفاع کا پروگرام شہریوں کو نہ صرف ہر قسم کے حادثات سے نبرد آزما ہونے کی تربیت دیتا ہے، بلکہ بعض حالات میں حادثات سے محفوظ رہنے کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ تربیت یافتہ شہری اپنی جان و مال کی حفاظت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔

☆ ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۱۰۳ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

کہانی - بچے کی زبانی

شاعر لکھنوی

مجھے لکھنا ہے اک ایسی کہانی
 قلم کی زب ، مگر ٹوٹی ہوئی ہے
 قلم کی فکر میں الجھا ہوا ہوں
 اگر ابو کا پن مل جائے مجھ کو
 مگر کیسی ہو؟ اُس کی شان کیا ہو
 یہی عنوان ہوگا سب سے معقول
 مری آنکھوں میں ہے شانی کی صورت
 ہوئی تھی گم، مرے بستے کی ڈوری
 ورق کاپی کا پھاڑا تھا جانے
 میں سہا رہتا تھا ٹوٹی کے ڈر سے
 بہت کچھ یاد ہے لکھوں میں کیسے
 ارے کتنا مزہ آیا ، آہا

جو سب کو یاد ہو جائے زبانی
 لکھوں کیسے؟ یہ مشکل آپڑی ہے
 جھکائے سر یہی میں سوچتا ہوں
 کہانی خود بہ خود یاد آئے مجھ کو
 کہانی کا مری عنوان کیا ہو
 میں اس کا نام رکھوں "میرا اسکول"
 لکھوں شاکر کہ اجمل کی شرارت
 کروں ظاہر، میاں تجھی کی چوری
 مجھے وہ روز آتی تھی ستانے
 شکایت روز وہ کرتا تھا سر سے
 قلم تو ڈھونڈ لوں ابو کا پہلے
 قلم ہے میز کے خانے میں رکھا

کروں اسکول کے ظاہر، میں سب راز
 لڑائی کے لگے رہتے ہیں دھڑکے
 خیالوں کی ندی بھی چڑھ رہی ہے
 یہ دروازے کو کس نے کھٹکھٹایا
 اسے بھی کیا مرے دل کی خبر ہے
 یہ کیوں کرسی میں دھنستا جا رہا ہے
 وہ ہنس کر کہہ رہا ہے میرے بھائی!
 یہ منہ پر اور کپڑوں پر سیاہی
 وہ حلیہ ہے کہ کوئی بھوت جیسے
 یہ جملے سن کے میرا ذہن جاگا
 ہوئی شرمندگی حالت پہ اپنی

چلو ، کرتا ہوں اب لکھنے کا آغاز
 بہت شیطان ہوتے ہیں یہ لڑکے
 کہانی اور آگے بڑھ رہی ہے
 کہانی چل رہی تھی ، کون آیا
 ارے یہ تو مرا ساتھی ظفر ہے
 مری حالت پہ ہنستا جا رہا ہے
 یہ تُو نے اپنی کیا حالت بنائی
 مری توبہ ، مری توبہ الہی
 یہ مونچھیں لگ گئیں چہرے پہ کیسے
 میں فوراً آسنے کی سمت بھاگا
 ہنسی آئی مجھے صورت پہ اپنی

یہ سوچا تھا ، کہانی لکھ رہا ہوں
 مگر میں خود کہانی بن گیا ہوں

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۱۰۴ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۱۰۵ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی



سبز ہلالی پرچم

ام عادل

قومی پرچم کسی بھی قوم کی شان و شوکت اور اس ملک و قوم کی آزادی کی پہچان ہوتا ہے۔ ہر آزاد ملک کا کوئی نہ کوئی پرچم ضرور ہوتا ہے۔ پرچم کارنگ ڈیزائن اور ساز اس قوم کے عزائم و اُمگنوں کا ترجمان ہوتا ہے۔ قوموں کے پرچموں سے ان کے نصب العین کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ مثلاً اسلامی ملک سعودی عرب کے پرچم پر تحریر کلمہ طیبہ اس بات کا اظہار ہے کہ سعودی حکومت کا نصب العین دین اسلام اور توحید کی سر بلندی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کا سبز رنگ جہاں مسلمانوں کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے، وہیں یہ رنگ ترقی و خوش حالی کی علامت بھی ہے۔ اس میں موجود سفید رنگ کی پٹی اس ملک میں بسنے والی اقلیتوں کی نشاندہی کرتی ہے۔

اس خوب صورت و دل کش پرچم کو جناب محترم اقبال احمد صاحب نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس کا رنگ گہرا سبز، شکل مستطیل ہے اور لمبائی چوڑائی ۳،۲ کی نسبت سے ہے۔ سبز حصے کے وسط میں پانچ کونے والے سفید ستارے کے ساتھ ۲۵ ڈگری زاویے سے چاند دکھایا گیا ہے۔ پرچم پر موجود سفید پٹی پرچم کا چوتھائی حصہ ہے۔ اس پرچم کی تشکیل کے لیے جو کمیٹی بنی اس کے اراکین میں قائد اعظم محمد علی جناح، خان لیاقت علی خاں اور سردار عبدالرب نثر شامل تھے۔ پاکستانی پرچم کا یہ پیارا ڈیزائن ۱۱- اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کراچی میں منظور ہوا۔ اس پرچم کو پہلی مرتبہ تیار کرنے کا اعزاز دو بھائیوں ٹیلر ماسٹر الطاف حسین اور افضال حسین کو

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۱۰۶ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

حاصل ہوا۔ تیاری کے بعد اس ہلالی پرچم کو پہلی بار قیام پاکستان کے اعلان کے بعد ۱۳ اگست ۱۹۴۷ء کی رات بارہ بج کر ایک منٹ پر لہرایا گیا اور اسے لہرانے کا اعزاز تحریک پاکستان کی نامور اور معتبر علمی شخصیت ”علامہ شبیر احمد عثمانی“ کو حاصل ہوا۔ اللہ کی خاص رحمت سے یہ ہمیشہ ہواؤں کے دوش پر لہراتا رہے گا۔ یہ صرف بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے دستِ راست محترم خان لیاقت علی خاں کی برسی کے موقع ۱۱ ستمبر اور ۱۶ اکتوبر کو سرنگوں رہتا ہے۔ ہمارے شاعروں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اس پرچم کی شان میں بہت کچھ لکھا۔ قومی ترانے کے خالق جناب حفیظ جالندھری نے قومی ترانے میں نہایت خوب صورت الفاظ میں پرچم کی شان بیان کی ہے۔ خدا ہمارے سبز ہلالی پرچم کو تا ابد سر بلند اور لہراتا رکھے آمین۔

اپنے پرچم تلے ہر سپاہی چلے
جیسے تاروں کے ٹھرمٹ میں چندا چلے
اپنے پیارے وطن کو سجائیں گے ہم
ڈڑے ڈڑے کو سورج بنائیں گے ہم
کوئی دشمن جو روکے ہمارے قدم
ساری دنیا کا تختہ الٹ دیں گے ہم
اپنے پرچم تلے ہر سپاہی چلے
جیسے تاروں کے ٹھرمٹ میں چندا چلے

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۱۰۷ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

آدھی ملاقات

یہ خطوط ہمدرد نونہال شمارہ جنوری ۲۰۱۵ء

کے بارے میں ہیں

ہر شمارے کی طرح جنوری کا شمارہ بھی اچھا لگا۔ جاگو اور جگاؤ میں بہت ہی خوب صورت سبق دیا گیا۔ اس مہینے کا خیال بھی بہت ہی عمدہ تھا۔ روشن خیالات اور نعت شریف بہت پسند آئیں۔ ”شہید پاکستان۔ ایک نظر میں“ حکیم محمد سعید کے بارے میں پڑھ کر معلومات میں اضافہ ہوا۔ انکل شہید حکیم محمد سعید بہت اچھے ہمارے رہنما تھے اور ہمارے لیے بے مثال خدمات انجام دی۔ تمام کہانیاں اچھی تھیں۔ کسوٹی (مسعود احمد برکاتی) اللہ نے ملائی جوڑی (انور فرہاد) تیرہویں کرسی (دقار حسن) جادوئی تختہ (احمد عدنان طارق) اور تعبیر بہت ہی پرہٹ کہانیاں تھیں اور بلا عنوان کہانی اے دن تھیں اور خیالات کا کارواں، وقت بہت کم ہے، قرطبہ، معروف دن اور مضامین بھی معلومات سے بھرپور اور اچھے تھے۔ نظموں میں نئے سال کا پیغام اور چڑیا گھر کی سر بہت پسند آئیں۔ انکل! میں نونہال بک کلب کا ممبر بننا چاہتی ہوں۔ تو پیردانی محمد رمضان مثل (نواب شاہ)

سردرق بھی خوب بیچ رہا ہے۔ ”معروف دن“ پڑھ کر حکیم صاحب کی خوبصورت زندگی کا تعارف بہت خوب لگا۔ اوسس شیخ ملو پیک سنگھ

جنوری کا شمارہ بہت اچھا تھا۔ پڑھ کے مزہ آیا۔ میں میڈیکل کی طالبہ ہوں، اس بار چھوٹی بہن نے ”اللہ نے ملائی جوڑی“ پڑھنے کو کہا۔ بس پھر دل نہیں چاہا نونہال چھوڑنے کا پورا اشارہ پڑھ کے رکھا۔ بہت مزا آیا۔ ہر کہانی ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ نوال قاطرہ بہت عمدہ شاہد امین، نواب شاہ

جنوری کے شمارے کی کہانیاں پڑھ کر دل خوش ہوا۔ سردرق بہت پیارا تھا۔ کہانیوں میں بلا عنوان کہانی، اللہ نے ملائی جوڑی، کسوٹی، تعبیر، تیرہویں کرسی پڑھ کر مزہ آیا۔ امیر محمد شاہد امین۔ نواب شاہ

جنوری کا شمارہ ہر شمارے کی طرح خاص تھا۔ ہنسی گھر میں بہت

اچھے لپٹے تھے۔ کہانیوں میں اللہ نے ملائی جوڑی، کسوٹی، میری آپ بیتی، تعبیر اور بلا عنوان بہت اچھی تھی۔ احرار حسن، نواب شاہ

جنوری کا سردرق ہم کو بہت ہی بھایا۔ جاگو جگاؤ نے عظیم شخصیات کا تعارف کرایا۔ کسوٹی سے دل کو روشن کر دیا۔ جادوئی تختہ کو بالکل بے مزہ پایا۔ ایمان حاشیہ نواب شاہ

میں ہمدرد نونہال کا نیا دوست ہوں۔ یہ رسالہ بہت ہی اچھا اور خوبصورت ہے۔ حسن علی، حسن ابدال

جنوری کا شمارہ ہر لحاظ سے، ہر انداز سے بہترین تھا۔ نئے سال کا پیغام، نعت شریف، چڑیا گھر کی سر اور تھوڑا تھوڑا بہت۔ یہ سب نظمیں ہر لحاظ سے اچھی تھیں۔ کہانیوں میں سب سے اچھی میری آپ بیتی، خیالات کا کارواں، کتابیں ہماری دوست، وقت بہت کم ہے۔ قرطبہ، تیرہویں کرسی، اللہ نے ملائی جوڑی، کسوٹی، جادوئی تختہ اور ذہین طالبہ سب ہی کہانیاں پڑھ کر اس مہینے کا مزہ دو بالا ہو گیا۔ ہمیشہ کی طرح معلومات افزا سے معلومات میں اضافہ ہوا۔ فیب احمد رند، عداوا، رند عداوا کالونی۔ ساگھر

جاگو جگاؤ، پہلی بات، اس مہینے کا خیال بہت پسند آئے۔ ”کسوٹی“ (مسعود احمد برکاتی) تحریر بہت خوبصورت تھی۔ مضمون ”شہید پاکستان ایک نظر میں“ سے معلومات میں بے حد اضافہ ہوا۔ سب سے اچھی بلا عنوان انعامی کہانی تھی۔ خیالات کا کارواں (حمیرا سید) تحریر بہت پسند آئی۔ تیرہویں کرسی وہی خاتون کی مزے دار کہانی تھی، لیکن بہت مختصر تھی۔ تعبیر سبق آموز کہانی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا چھوڑا! نظم دل چسپ تھی۔ ذہین طالبہ بھی بہترین تحریر تھی۔ حاشیہ محمد خالد قریشی، سکھر

پہلے نمبر پر کہانی ”اللہ نے ملائی جوڑی“ دوسرے پر ”تعبیر“ اور تیسرے نمبر ”خیالات کا کارواں“ لگی۔ نونہال ادیب میں تمام تحریریں عمدہ تھیں۔ ہنسی گھر بھی اچھا لگا۔ ”جادوئی تختہ“ اور

تیرہویں کرسی“ بھی اچھی تھیں۔ سردرق ہمیں بہت پسند آیا۔

مریشہ بنت حبیب الرحمن۔ کراچی

”اللہ نے ملائی جوڑی“ (انور فرہاد) تیرہویں کرسی (دقار حسن) ”تعبیر“ اور ”بلا عنوان انعامی کہانی“ (جدون ادیب) بہترین کہانیاں ہیں۔ ”جادوئی تختہ“ (احمد عدنان طارق) اس مہینے کی سب سے بہترین کہانی ہے۔ ”کتابیں ہماری دوست“ ایک معلوماتی اور دل چسپ مضمون ہے۔ نظموں ”چڑیا گھر کی سر“ (قیصر حسین) ”یہ تم نے کیا کیا چھوڑا“ (عبدالرؤف، تاجور) اور ”تھوڑا تھوڑا بہت“ (مولوی اسماعیل میرٹھی) اچھی تھیں۔

حسن رضا سردار، علیہ نشان وغیرہ کرکڑ کا موگی

کہانیوں میں پہلے نمبر پر ”تیرہویں کرسی“ تھی اور پھر باقی ساری تحریریں پرہٹ تھیں۔ انکل آپ مجھے ہدایت نامہ برائے اشاعت تصویر اور نونہال بک کارڈ بھجوادیں۔ محمد گلپب بہاول پور

جواب: کس پتے پر بھجوائیں۔ خط میں آپ نے پتہ ہی نہیں لکھا۔

سردرق بھی ہمیشہ کی طرح بہت اچھا اور پرکشش تھا۔ کہانیاں، نظمیں، معلوماتی تحریریں اور خطوط بہت اچھی لگیں۔ نونہال کی تحریریں اتنی دل چسپ ہوتی ہیں کہ پڑھ کر یوریت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ حکیم محمد سعید صاحب کا جاگو جگاؤ او رجناب مسعود احمد برکاتی کی پہلی بات ہمارے لیے علم کی روشنیاں ہیں۔ طارق محمود کھوسو، کھوسو

جنوری (سال نو) کا شمارہ بہت اچھا تھا۔ اس میں اللہ نے ملائی جوڑی، جادوئی تختہ اور بلا عنوان کہانی بہت اچھی رہی۔ محمد احمد، ملتان

جاگو جگاؤ اور پہلی بات پہلے کی طرح اچھی تھیں۔ کہانیوں میں کسوٹی، تیرہویں کرسی، جادوئی تختہ، بلا عنوان انعامی کہانی اور ہنسی گھر زبردست تھیں۔ امامہ عاکلین، حاصل پور، خلیج بہاول پور

جنوری کے شمارے میں جاگو جگاؤ سے لے کر نونہال لغت تک سب ہی کچھ بہترین ہے۔ سب کہانیاں اور سب سلسلے ہمیشہ کی طرح

بہترین ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نونہال نے ہمیں مایوس کیا ہو۔ سبق آموز کہانیاں، دل چسپ تحریریں، خوب صورت باتیں، معلوماتی مضمون، ہنساتے لپٹے اور خوب صورت اشعار، کچھ نہیں آتا کہ کس کس کی تحریف کریں۔ بہادر علی بہادر۔ کنڈیادو

جنوری کا شمارہ قابل دید تھا۔ کہانیاں اللہ نے ملائی جوڑی، تیرہویں کرسی، جادوئی تختہ اور بلا عنوان انعامی کہانی سیر ہٹ تھیں۔ ذہین طالبہ اور کسوٹی سبق آموز کہانیاں تھیں۔ لطائف بہت اچھے تھے۔ محمد عمار، لاہور۔

سردرق بہت ہی خوب صورت تھا۔ ”جاگو جگاؤ“ میں حکیم محمد سعید شہید کی باتیں عقیدت اور نصیحت سے بھرپور تھیں۔ ”پہلی بات“ بھی عقیدت و نصیحت سے بھرپور تھا۔ ”روشن خیالات“ روشن ہوتے ہیں۔ ”شہید پاکستان ایک نظر میں“ بہت ہی مفید معلومات سے بھرا مضمون تھا۔ ”معروف دن“ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ”قرطبہ“ پڑھ کر معلومات میں اضافہ ہوا۔ ”ذہین طالبہ“ پڑھ کر نئے عزم نے جنم لیا۔ کہانیاں اپنا جواب آپ تھیں اس کے علاوہ مستقل سلسلے بھی بھرپور معلومات لیے ہوئے تھے۔

محمد اجمل شاہین انصاری چوہنگ شی

ساری کہانیاں معیاری تھیں خصوصاً بلا عنوان کہانی بہت زبردست رہی۔ جادوئی تختہ بھی اچھی کہانی تھی۔ ہنسی گھر کے لپٹے پڑھ کر ہم لطف اندوز ہوئے۔ مجاہد الرحمن، ثروت الرحمن۔ کراچی

پہلی بات نے بہت گہرا اثر ڈالا۔ تمام کہانیاں لا جواب تھیں۔ ذہین طالبہ بھی بہت اچھی اور سبق آموز تھی۔ ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں ایک پریمیا چھپی ہے۔ بس خود اعتمادی کی ضرورت ہے۔ مشعل نایاب، حیدرآباد شاہ، قیوم آباد، کراچی۔

ماہ نامہ نونہال بچوں کے تمام رسالوں میں ایک رسالہ ہے جس کو پڑھ کر نہ صرف معلومات حاصل ہوتی ہیں، بلکہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے۔ جنوری کا شمارہ بھی بہت شاندار تھا۔ افرح صدیقی، کورنگی۔ کراچی

جنوری ۲۰۱۵ء کا شمارہ مجموعی طور پر بہت اچھا تھا۔ بلا عنوان انعامی

ماہنامہ ہمدرد نونہال

۱۰۹

مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

ماہنامہ ہمدرد نونہال ۱۰۸ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

کہانی سے بھی ہمیں سبق حاصل ہوا۔ مریم صدیقی، کورنگی، کراچی

● جنوری ۲۰۱۵ء کا شمارہ سردرق سے لے کر نونہال لغت تک بہت اچھا تھا۔ اللہ اس پیارے اور عزت دار رسالے کو اور عزت عطا فرمائے (آمین) مجھے اس شمارے میں سب سے اچھی جاگو جگا ڈگی۔ اس کے علاوہ ذہین طالبہ۔ سعیدہ سعید، کورنگی۔ کراچی

● جنوری ۲۰۱۵ء کا شمارہ اچھا تھا۔ کسوٹی اور جادوئی تختہ کے علاوہ لطیفے اور مصروف دن بھی بہت اچھا لگا۔ عمار ایاز صدیقی، کورنگی۔ کراچی

● تمام کہانیاں بہت ہی زبردست تھیں۔ بلا عنوان کہانی تو اپنی مثال آپ تھی۔ نونہال معلومات حاصل کرنے میں ہمارا معاون اور مددگار ثابت ہوا ہے۔ اسما جاوید، بہاولنگر

● ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ساری کہانیاں شیر بہت تھیں۔ سب سے اچھی کہانی "بلا عنوان" تھی۔ لطیفے بھی بہت اچھے تھے۔ محمد صوفی، کراچی

● ساری کہانیاں اسے دن تھیں۔ "اللہ نے ملائی جوڑی" پڑھ کر بہت ہنسی آئی۔ تعبیر "بلا عنوان" جادوئی تختہ سبق آموز کہانیاں تھیں۔ "تیرھویں کرسی" سمجھ میں نہیں آئی۔ نظموں میں "نئے سال کا پیغام" اچھی لگی۔ مریم عبدالسلام شیخ، نواب شاہ

● نئے سال کا پہلا شمارہ بہت خوب تھا۔ سب سے بہترین کہانی "بلا عنوان" تھی جس میں "دیو دادا" نے زبردست فیصلہ کیا اور اپنے بیٹے کا مستقبل محفوظ کر لیا۔ "تیرھویں کرسی" ان لوگوں کے لیے سبق آموز ہے جو ان توہمات میں پڑتے ہیں اور گمن پکر بن جاتے ہیں۔ "جادوئی تختہ" بہت ہی خطرناک تھی، لیکن مزید اچھی۔ ادیبہ نور۔ نواب شاہ

● جنوری کا شمارہ پرہٹ تھا۔ مسعود احمد برکاتی کی تحریر کسوٹی نے بہت متاثر کیا۔ حکیم صاحب کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں کہ انھوں نے کس طرح اپنی زندگی گزار دی اور انھیں عہدے ملے اور انھوں نے کتنے ادارے قوم کے لیے قائم کیے۔ ہم ان کے احسان مند ہیں گے۔ کہانیوں میں اللہ نے ملائی جوڑی نے بہت ہنسایا۔ اس کے علاوہ تعبیر (محمد شعیب) بلا عنوان انعامی کہانی۔

تیرھویں کرسی، جادوئی تختہ، اچھی تھی۔ ذہین طالبہ کے بارے میں پڑھ کر بہت اچھا لگا۔ ہمیں بھی اس کی طرح محنت کرنی چاہیے۔

● حریم قاطرہ، حسان طیم، عبدالرحمن، ملتان۔

● جنوری کا شمارہ زبردست تھا۔ جادوئی تختہ اور بلا عنوان کہانیاں ٹاپ پر تھیں۔ شہید حکیم محمد سعید کے بارے میں پڑھ کر معلومات میں بہت اضافہ ہوا۔

● عروج رانا، پشمال دوست محمد مرید کے خلیج شیخوپورہ

● روشن خیالات بہت اچھے تھے۔ انکل! میں نے نونہال بک کلب کے لیے اپنا نام اور اپنا پتہ وغیرہ بھیجا ہے۔ مجھے بک کلب کا کارڈ بھیج دیں۔ شیردہ شہناز۔ حیدرآباد۔

● جنوری کا شمارہ شیر بہت تھا۔ پہلے نمبر پر جادوئی تختہ، ذہین طالبہ، اللہ نے ملائی جوڑی، بلا عنوان انعامی کہانی، تیرھویں کرسی، تعبیر، میری آپ جتنی وغیرہ ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ ہنسی گھر کچھ خاص نہیں تھا۔ جاگو جگا ڈے اپنے دماغ کو جگا یا۔ علم در پیچے اور نونہال ادیب بھی اچھے تھے۔ کہانی بیچنے کا طریقہ کیا ہے؟

● جواب: جس پتے پر خط بھیجا ہے، اسی پتے پر کہانی بھی بھیجی جاسکتی ہے۔ کہانی کے آخر میں اپنا نام، پتہ صاف لکھیں۔

● ساری کہانیاں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ "بلا عنوان" کہانی بھی نبرد تھی اور نظموں میں ساری اچھی لگیں۔ مریم عبدالسلام شیخ، نواب شاہ

● جنوری کا شمارہ حسب معمول عمدہ رہا۔ تمام کہانیاں اتنی بہترین تھیں کہ انتخاب کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ سب سے بہتر کے کہا جائے۔ صدق احمد۔ کراچی

● جنوری کے شمارے کی تمام کہانیاں مزے کی تھیں۔ اللہ نے ملائی جوڑی، ذہین طالبہ، کسوٹی، جادوئی تختہ، بہت اچھی لگیں اور ہنسی گھر کی توہمات ہی نہیں۔ کیا خوب ہنسی گھر تھا۔ تاہم مسعود۔ کراچی

● جنوری ۲۰۱۵ء کا شمارہ خوب صورت تحریریں اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ خاص طور پر "اللہ نے ملائی جوڑی" "تیرھویں

کرسی" "جادوئی تختہ" اور "بلا عنوان انعامی کہانی" بہت پسند آئیں۔ عائشہ الیاس۔ کراچی

● تمام شمارہ زبردست تھا۔ پہلی بات نے پہلے معلم کی جگہ لے رکھی ہے۔ "کسوٹی" نے واقعی کسوٹی کا کام کیا۔ "جادوئی تختہ" اور "بلا عنوان" بہت پسند آئیں۔ اس دفعہ "معلومات افزا" کے سوالات قدرے آسان محسوس ہوئے۔ محمد قمر الزمان۔ خوشاب

● تازہ شمارہ تو شیر بہت تھا۔ بلا عنوان کہانی کا تو کوئی جواب ہی نہ تھا۔ ہنسی گھر بھی اچھا تھا۔ مافعا اقبال۔ مگلا بٹ ٹاؤن

● جنوری ۲۰۱۵ء کے رسالے کا سردرق شاندار تھا۔ سب سے پہلے جاگو جگا ڈاؤر پہلی بات پڑھی۔ کہانیوں میں پہلے نمبر پر "بلا عنوان انعامی کہانی" اور "اللہ نے ملائی جوڑی" دوسرے نمبر پر "تیرھویں کرسی" جب کہ تیسرے نمبر پر "تعبیر" اچھی لگیں۔ "لغز" یہ تم نے کیا کیا چھوڑا؟ شاندار تھی۔ "شہید پاکستان" پڑھ کر پتا چلا کہ واقعی شہید حکیم محمد سعید نے وطن کے لیے کتنے کام سرانجام دیے۔ مرثیہ خوب حسنا تھا۔ کراچی

● ہنسی گھر کے لطیفے بھی لا جواب تھے۔ نونہال مصور میں سب بچوں نے اچھی تصویریں بنائیں تھیں۔ ہر شمارے پر بہت محنت کی جاتی ہے۔ نام پتہ نامعلوم

● جنوری کا شمارہ کافی دلچسپ تھا۔ تیرھویں کرسی ایک منفرد کہانی تھی۔ البتہ اللہ نے ملائی جوڑی (انور فرہاد) کسی کی دل آزاری کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ کے رسالے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ تنقید سے بھرے خط بھی شائع کر دیتے ہیں۔ انکل! سردرق کی تصویر بیچنے کا کیا طریقہ ہے۔

● جواب: تین سے پانچ سال کے بچے کی پوسٹ کارڈ تصویر جس میں بچہ خوش گوار موڈ اور گہرے رنگ کے کپڑوں میں ہو، تصویر کا پس منظر سادہ ہو، ڈاک سے یا دستی دی جاسکتی ہے۔ اپنا پتہ پورا اور صاف لکھیں۔

● شہید پاکستان کے بارے میں معلومات بہت عمدہ تھیں۔ کہانیوں میں "اللہ نے ملائی جوڑی" "میری آپ جتنی" "بلا عنوان کہانی" لا جواب تھی۔ اس سے ہمیں بھی نصیحت ہوئی کہ

"باادب یا نصیب ہے ادب بے نصیب" اور "جادوئی تختہ ذرا مختلف تھی۔ نظموں میں "نئے سال کا پیغام" اور "تھوڑا تھوڑا بہت" اچھی لگی۔ "ہنسی گھر" پہلے سے بہت زیادہ دلچسپ تھا۔ محمد جاگیر عباس جوہی۔ کراچی

● جنوری کا شمارہ ہر لحاظ سے بہت اچھا تھا۔ کہانیوں میں سب سے اچھی کہانی بلا عنوان تھی۔ کسوٹی، جادوئی تختہ، اللہ نے ملائی جوڑی، تیرھویں کرسی اور مصروف دن اصلاحی تحریریں تھیں۔

● جنوری کا شمارہ پرہٹ تھا۔ نونہال ادیب۔ علم در پیچے میں اقتباسات بہت دل چسپ تھے۔

● ملک عاریان۔ بھٹائی کالونی۔ کراچی

● جنوری کا شمارہ زبردست، لا جواب اور دل چسپ تھا۔ ذہین طالبہ پڑھ کر آکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جادوئی تختہ، اللہ نے ملائی جوڑی، اچھی کہانیاں تھیں۔ مگر بلا عنوان کہانی خاص نہیں تھی۔ باقی چیزیں مزے دار تھیں۔ زمین ملی۔ بھٹائی کالونی۔ کراچی

● جنوری کا شمارہ ہمیشہ کی طرح پرہٹ تھا۔ کہانیاں تو تمام ہی زبردست تھیں۔ جادوئی تختہ نمبروں تھی اور بلا عنوان کہانی اور اللہ نے ملائی جوڑی شمارے کی جان تھیں۔ سیف الرحمن۔ حیدرآباد۔

● جنوری کا شمارہ حد سے زیادہ اچھا لگا۔ کہانیاں تمام ہی پسند آئیں۔ شہید حکیم محمد سعید کے بارے میں معلومات حاصل کر کے بہت مزہ آیا۔ نونہال ادیب بہت اچھا لگا۔ علم در پیچے میں بھی بہت اچھی اچھی تحریریں تھیں۔ ہنسی گھر پڑھ کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ سعید الرحمن۔ حیدرآباد

● نئے سال کا رسالہ بہت ہی بہترین تھا۔ سردرق دیکھ کر ہی معلوم ہو گیا کہ جنوری کا شمارہ کیسا ہوگا۔ سردرق سے لے کر نونہال لغت تک پورا ہی شمارہ زبردست تھا۔ کہانیاں تو تمام ہی پسند آئیں۔ شہید حکیم محمد سعید کی معلومات حاصل کر کے علم میں اضافہ کیا۔ رفیقہ عمر، لطیف آباد، حیدرآباد

جوابات معلومات افزا - ۲۲۹

سوالات جنوری ۲۰۱۵ء میں شائع ہوئے تھے

جنوری ۲۰۱۵ء میں معلومات افزا-۱-۲۲۹ کے جو سوالات دیے گئے تھے، ان کے جوابات ذیل میں لکھے جا رہے ہیں۔ ۱۶ صحیح جوابات بھیجنے والے نونہالوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے قرعہ اندازی کر کے ۱۵ نونہالوں کے نام نکالے گئے ہیں۔ ان سب نونہالوں کو انعامی کتاب بھیجی جا رہی ہے۔ باقی نونہالوں کے نام شائع کیے جا رہے ہیں۔

- ۱- سعودی عرب میں عرفات اور منیٰ کے درمیان ایک مقام ہے جسے مزدلفہ کہتے ہیں۔
- ۲- قرآن مجید میں حضرت جبریلؑ کو "روح الامین" کا لقب دیا گیا ہے۔
- ۳- خواجہ ناظم الدین پاکستان کے گورنر جنرل بھی رہے اور وزیر اعظم بھی۔
- ۴- نوبیل انعام یافتہ پاکستانی سائنس دان ڈاکٹر عبدالسلام ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے تھے۔
- ۵- حضرت خواجہ نظام الدین اولیا کی پیدائش ۲۷ صفر ۶۳۶ھ کو ہوئی تھی۔
- ۶- شطرنج کے کھیل میں ایک کھلاڑی کے پاس آٹھ پیادے ہوتے ہیں۔
- ۷- ۱۵۳۰ء سے ۱۵۵۵ء تک ہندستان پر سوری خاندان کی حکمرانی رہی۔
- ۸- "بخارست" رومانہ کا دارالحکومت ہے۔
- ۹- رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا براعظم ایشیا ہے۔
- ۱۰- پہلی اور دوسری رات کے چاند کو عربی زبان میں ہلال کہتے ہیں۔
- ۱۱- آپ کے دادا کے اکلوتے بیٹے آپ کے والد ہیں۔
- ۱۲- "CARROT" انگریزی زبان میں گاجر کو کہتے ہیں۔
- ۱۳- رومن ہندسوں میں ۱۹ کے عدد کو انگریزی کے حروف XIX سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
- ۱۴- مشہور شاعر آبرو کا اصل نام شیخ نجم الدین عرف شاہ مبارک تھا۔
- ۱۵- اردو زبان کا ایک محاورہ: "اندھا بانٹے ریوڑیاں ہر پھر کر اپنوں ہی کو دے۔"
- ۱۶- مومن خاں مومن کے اس شعر کا دوسرا مصرع اس طرح درست ہے:
تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا

ماہنامہ ہمدرد نونہال

۱۱۳

مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

"نونہال ادیب" نے تو کئی نئے نئے لکھنے والوں کو متعارف کروایا

ہے۔ رہیہ اقبال۔ ایڈٹ آباد

تمام کہانیاں اچھی تھیں، مگر جادوئی تھنڈ (احمد عدنان طارق)

"بلا عنوان انعامی کہانی" (جدون ادیب) بہترین تھیں۔ اس

کے علاوہ "وقت بہت کم ہے" اچھی تحریر تھی۔ واقعی حکیم صاحب کی

بات بالکل درست ہے۔ لے تپ ناصر۔ فیصل آباد۔

ہر شمارے کی طرح تازہ شمارہ بھی بہت پسند آیا۔ اس بار تو کوئی

کہانی ایسی تھی ہی نہیں جو دوسری سے کم نظر آ رہی ہو۔ کوئی

بصرف دن اور لقمہ "تھوڑا تھوڑا بہت" میرے دل کو

بھائیں۔ بشری زاہد۔ کراچی

جاگو جگاڈ اور پہلی بات سب سے پہلے پڑھی۔ شہید پاکستان کے

بارے میں بھی کئی معلومات ملیں۔ بہترین کہانیاں "جادوئی تھنڈ"

تیرھویں کرسی "تعبیر" اللہ نے ملائی جوڑی" اور میری آپ بیتی

تھیں۔ اکل اچھے آپ ہمدرد نونہال اسمبلی کے بارے میں بتائیں

کہ وہ کیا ہے اور اس کا نمبر کیسے بنا جاتا ہے۔

جواب : نونہال اسمبلی میں شرکت کے لیے فون نمبر

۰۳۱-۳۶۶۱۶۳۸۲ پر رابطہ کر کے طریقہ معلوم کریں۔

جنوری کا شمارہ تو ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر نکلا۔

کہانوں میں اللہ نے ملائی جوڑی، تعبیر، میری آپ بیتی،

بلا عنوان، جادوئی تھنڈ زبردست رہی۔ تیرھویں کرسی نے تو سب

پر بازی لے لی۔ علم در پیچ اور نونہال ادیب بھی بلندی پر

رہے۔ میں نعت شریف، نئے سال کا پیغام، چڑیا گھر کی سیر، یہ تم

نے کیا کیا چھوٹا اچھی نظمیں تھیں۔ اس بار لطیفے مختلف اور

زبردست تھے۔ محمد مرشد۔ کراچی

جنوری کا شمارہ پڑھ کر بہت مزہ آیا۔ کوئی نے تو ہماری

آنکھیں کھول دیں۔ اللہ نے ملائی جوڑی (انور فرہاد) نے تو

ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ باقی کہانیاں بھی لاجواب تھیں۔ نظمیں اور

ڈرائنگ بھی بہت عمدہ تھی۔ محمد اسماعیل، محمد الرشید۔ کراچی

کہانیاں تو تمام ہی اچھی لگیں۔ لیکن جادوئی تھنڈ بہت پسند آئی۔

نظمیں بھی بہت اچھی تھیں۔ نونہال ادیب میں بہت سی خوبصورت

تحریریں تھیں۔ پورا ہی شمارہ بہت ہی زبردست تھا۔

احمد سعید الرحمن۔ حیدرآباد

نئے سال کا نیا شمارہ پر ہٹ تھا۔ سرورق کچھ خاص نہیں تھا۔

کہانوں میں بلا عنوان انعامی کہانی (جدون ادیب) جادوئی

تھنڈ (احمد عدنان طارق)، اور تیرھویں کرسی (وقار حسن) اچھی

تحریریں تھیں۔

سیدہ اریہ بٹول۔ کراچی

مسود احمد برکاتی کی اسلامی تحریر بہت اچھی لگی۔ شہید پاکستان ایک

نظر میں حکیم محمد سعید کے بارے میں جان بوجھ کر بہت اچھا لگا۔ قرطبہ،

جادوئی تھنڈ اور ذہین طالبہ بہترین کہانیاں تھیں۔ مہدی بجاہر مدوی

انصاری، چہنگستان

نئے سال کا شمارہ اچھا تھا اور سرورق کی تصویریں بھی پیاری

تھیں۔ سب سے اچھی مجھے ذہین طالبہ (بینش صدیقہ) کی تحریر

لگی۔ یہ تحریر پڑھ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ جناب حکیم محمد سعید کے

بارے میں مصروف دن (غلام حسین سین) پڑھ کر معلوم ہوا کہ

واقعی زندگی ہو تو ایسی۔ شہید پاکستان۔ ایک نظر میں (ظلال ہما) بہت

اچھے طریقے سے بتایا گیا تھا۔ وقت بہت کم ہے (افضال احمد خاں)

کتابیں، ہماری دولت (ڈاکٹر سہیل برکاتی) قرطبہ (غلام مرتضیٰ

سومرد) اور کوئی (مسود احمد برکاتی) بہت اچھی اور دل کو چھو لینے

والی تحریریں تھیں۔ کہانوں میں بلا عنوان کہانی (جدون ادیب) اور

تیرھویں کرسی (وقار حسن) اچھی تھی۔ کوئل قاطرہ اللہ بخش۔ کراچی

جاگو جگاڈ سے لے کر نونہال لغت تک ہر لفظ موتی تھا۔ اس دفعہ کا

شمارہ پڑھنے سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا۔ مجھے "ذہین طالبہ" اور "کوئی"

تحریریں پسند آئیں۔ جن کو پڑھ کر بہت اور لگن سے واقف ہوا

ہوں۔ بلا عنوان انعامی کہانی بھی اچھی تھی۔ محمد وقار حسن۔ اوکاڑہ


ہمدرد نونہال کے سب ہی سلسلے بہت زبردست ہیں اور خصوصاً



مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

۱۱۲

ماہنامہ ہمدرد نونہال



قرعہ اندازی میں انعام پانے والے پندرہ خوش قسمت نونہال

کراچی: خوش بو عباس، سید محمد انس، سید عالی وقار، سیدہ اریبہ بتول، سید محمد فرحان جاوید نجمی، حیدرآباد: یسرہ بنت حزب اللہ، سید محمد حماد حیدر۔ پشاور: محمد حمزہ انیس۔ میرپور خاص: فیروز احمد۔ ملتان: ایمن۔ راولپنڈی: تحریم احمد۔ بہاول پور: قرۃ العین عینی۔ ہری پور: جواد الحسن شاہ۔ لاہور: امتیاز علی ناز

۱۶ درست جوابات دینے والے انعام یافتہ نونہال

کراچی: آمنہ عمران خان، سیدہ لاریب جاوید، ہانیہ شفیق، سید اعظم مسعود، ناعمہ تحریم، پلوشہ بلال، عبدالودود، لائبہ عرفان، سمیعہ توقیر، صدف احمد، علیزہ شاہ، اریبہ اسماعیل، اریبہ انصاری، محمد راشد بقاء، احمد رضا، سندس سمیل، فلزا نعمان، علینا اختر، یوسف کریم، کول فاطمہ اللہ بخش، محمد حسین سعد نوید، محمد حذیفہ اسلم، محمد یوسف صغیر، فہد احمد، سید عفتان علی جاوید، سید جویریہ جاوید، سید باذل علی اعظم، سید شہنشاہ علی اعظم، محمد طیب نسیم، حسن شہاب صدیقی، اسماء ارشد، سیدہ مریم محبوب، سیدہ سالکہ محبوب، حیدرآباد: محمد راجیل، جویریہ اشتیاق، مریم کاشف، نسرین فاطمہ، عائشہ ایمن عبداللہ، مریم عارف خان، چاشور: حافظہ سمیعہ سعید، انک: ماہ نور ابرار، علی عبدالباسط، پشاور: میاں محمد حازق، مس حانیہ شہزاد، سعد زواد، حنیف، جھنگ: توصیف امان، خوشاب: محمد قمر الزمان، ٹوبہ بیگ سنگھ، سعیدہ کوثر مغل، راولپنڈی: وانیہ احمد، بریرہ متین، کرک: روچین زمان، سرگودھا: محمد حسن اکرام، اسلام آباد: مریم فاطمہ، بہاول پور: ایمن نور، احمد ارسلان، صباحت گل، محمد فرزانہ اختر، کاموگی: حسن رضا سردار، ساکھڑ: محمد ثاقب منصور، لاہور: محمد شادمان صابر، انشرح خالد بٹ، جگتا معلوم: مجاہد الرحمن۔

۱۵ درست جوابات بھیجنے والے سمجھ دار نونہال

کراچی: انم خان، روشنی خان، محمد مصعب علی، حسن رضا قادری، رب نواز خان، مہیرا اعجاز، لیاہ اعجاز، اریبہ شیخ، عمار اللہ خان، ثمن امجد، عبدالرحمن اعظم، ماہ رخ نصیر، حیدرآباد: حفصہ نسیم الدین، شیخ خانوال: احمد ابراہیم حسن، محمد عبداللہ اعجاز، کاموگی: حلیمہ نشان، کول شہزادی قادری، محمد خرقام حمید، ساکھڑ: صادقین ندیم خانزادہ، بہاول نگر: اسماء جاوید انصاری، چاشور: حافظہ عمر سعید، حافظہ معصوبہ سعید، لاہور: اللہ یار، لاریب رشید بلوچ، شیخو پور: محمد احسان الحسن، کشمور: سیف اللہ کھوسو، عبدالغفار کھوسو، ساکھڑ: چوہدری نیب احمد رندھاوا، ساکھڑ: عائشہ محمد خالد قریشی، ملتان: محمد اسید خالد، اسلام آباد: محمد ریان بین، فیصل آباد: زینب ناصر، راولپنڈی: محمد ارسلان ساجد، محمد احمر چوہدری، شہداد پور: محمد حسان خانزادہ، چکوال: بشری صفدر، بہاول پور: بشرہ حسین

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۱۱۳ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

کوٹ ادو: حسین عبداللہ، واہ کینٹ: سیدہ عروج فاطمہ، ٹوبہ بیگ سنگھ: فاطمہ حبیب، کمالیہ: کشمال، ٹوبہ کینٹ: عدن تحریم، ڈگری: محمد طلحہ مغل، لاہور: حفصہ طارق، محمد عبداللہ انصاری، محمد احمد ناصر اعوان۔

۱۴ درست جوابات بھیجنے والے علم دوست نونہال

کراچی: سندس آسیہ، بشرہ نقوی، مصطفیٰ ادریس، حلیمہ سعید، محمد توقیر صدیقی، عائشہ قیصر، رضی اللہ خان، جویریہ عبدالجید، انصاف احمد خان، حیدرآباد: سمیعہ ایاز سوسی، جویریہ فاطمہ محمد عامر قائم خانی، صبا سعید، ساکھڑ: ثمیر امبر، فلزا مہر، طوبی سلمان، سید طیب رضوان گیلانی، کاموگی: ظل حنا، محمد حسنا حمید، کھوگی: خورشید احمد، سرفراز احمد، حسن آرائیں، لاہور: عقیقہ کائنات، عبدالجبار روی انصاری، پشاور: پلوشہ مریم، آزاد کشمیر: طلحہ بن شہیر، ملتان: صائم عاصم صدیقی، ماہظفر، کشمور: طارق محمود کھوسو، چارسدہ: رنزا ظفر، ساکھڑ: اصباہ کبیر خانزادہ، اوکاڑہ: آمنہ افتخار، نواب شاہ: مریم عبدالسلام شیخ، پنڈ وادن خان: سیدہ منال حسن عابدی، کوٹ ادو: فاکہہ شیراز خان، ہڈالی: نعیم اللہ، تھارو شاہ: شایان آصف خانزادہ، راجپوت، پورے والا: رجاہ بتول، پٹاناکھل: حماد ظفر۔

۱۳ درست جوابات بھیجنے والے محنتی نونہال

کراچی: زین علی، وریشہ اسعد، عائشہ عرفان، افرح صدیقی، طیب ندیم الرحمن، محمد آصف انصاری، حور عین ناصر بیگ، مختتم الحسن نظامی، ظل عائشہ، حفصہ نفیس، رمشا صابر، مریم سمیل، حیدرآباد: آمنہ رضوان، نمرہ کنول، اسلام آباد: عثمان عبدالغنی خان، زینب بتول، عائشہ جواد، چکوال: محمد فصیح الیاس، میانوالی: محمد عمر خان، میرپور خاص: خساء محمد اکرم آرائیں، ڈیرہ اسماعیل خان: محمد معوذ الحسن، لاہور: روحانہ احمد۔

۱۲ درست جوابات بھیجنے والے پُر امید نونہال

کراچی: سمیعہ شیخ، مشعل نایاب، اسری نواد، مہوش حسین، ملک عاریان، محمد معین الدین غوری، سمعیہ کنول، محمد عثمان شاہد، نواب شاہ: عائشہ محمد طاہر قریشی، ایمان عائشہ، حیدرآباد: شیر دنیا شاہ، میرپور خاص: فریحہ فاطمہ، نالکہ خان شیخ، ساکھڑ: سمیعہ شیخ، بھکر: عبدالعزیز، ایبٹ آباد: دعا سجاد، کٹہ یارو: بہادر علی حیدر گڈانی بلوچ، ٹوبہ بیگ سنگھ: ادیس شیخ۔

۱۱ درست جوابات بھیجنے والے پُر اعتما و نونہال

کراچی: عریشہ نوید حسنا احمد، سید فائزہ احمد، محمد جہانگیر عباس جوینیہ، یحییٰ ندیم، سارہ مسعود، رضوان ملک، کامران گل آفریدی، محمد فہد الرحمن، سید علی رضا عابدی، اسلام آباد: نیاش نور، واہ کینٹ: محمد ابراہیم آصف، کوٹ ادو: فصیح اللہ، حیدرآباد: انوشہ بانو سلیم الدین، راولپنڈی: رافقہ نور العین۔

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۱۱۵ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی



زمین سے ملتا جلتا سیارہ دریافت

سائنس دانوں اور خلا بازوں نے کہکشاں میں زمین سے ملتا جلتا ایک سیارہ دریافت کر لیا ہے، جس پر پانی کی موجودگی کا بھی امکان ہے۔ امریکی نثریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ "ایف-۱۸۶" نامی یہ سیارہ نہ تو بہت بڑا ہے اور نہ بہت چھوٹا۔ یہ بہت ٹھنڈا بھی نہیں ہے اور بہت گرم بھی نہیں ہے۔ یہ سیارہ تقریباً ۵۰۰ نوری سالوں کی دوری پر ایک ستارے کے گرد گردش کر رہا ہے، لیکن یہ ستارہ ہمارے سورج کے مقابلے میں چھوٹا اور ٹھنڈا ہے۔

چیز کے بدلے چیز

بھارتی شہر "اودے پور" میں ایک ایسی دکان کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جہاں خریداری کے لیے رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دکان کا نام "دریادل دکان" ہے۔ یہاں لوگ رقم کے بجائے ایسی چیزیں لے کر آتے ہیں، جو اچھی اور قابل استعمال حالت میں ہوں اور ان کے بدلے میں اپنی ضرورت کی دوسری چیزیں لے جاتے ہیں۔ دکان دار کا مقصد رقم کے بغیر چیزوں کے تبادلے کو فروغ دینا ہے۔ یہاں کپڑوں، جوتوں، کھلونوں سے لے کر فرنیچر تک ہر شے دستیاب ہے۔ مقامی لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا ہے اور بڑی تعداد میں اس دریادل دکان کا رخ کر رہے ہیں۔

بلا عنوان کہانی کے انعامات

ہمدرد نونہال جنوری ۲۰۱۵ء میں جناب جدون ادیب کی بلا عنوان انعامی کہانی شائع ہوئی تھی۔ اس کہانی کے بہت اچھے اچھے عنوانات موصول ہوئے۔ کمیٹی نے بہت غور کرنے کے بعد تین بہترین عنوانات کا انتخاب کیا ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

پہلا عنوان: جاگ اٹھا انسان: کراچی سے سیدہ مریم محبوب نے،
دوسرا عنوان: زندگی بدل گئی: لاہور سے عبدالجبار رومی نے اور
تیسرا عنوان: ضمیر کی آواز: سکھر سے طلحہ احمد صدیقی نے بھیجا ہے۔

نوٹ: تیسرا نام قرعہ اندازی کر کے نکالا گیا ہے، کیوں کہ یہی عنوان کراچی سے فائزہ کامل اور رضی اللہ خاں نے، اسلام آباد سے شہناز شاہد نے اور کوٹ ادو سے حسن نے بھی ارسال کیا تھا۔

چند اور اچھے اچھے عنوانات ﴿

ہار میں جیت۔ ضمیر جاگ اٹھا۔ حاصل ماضی۔ اور تبدیلی آگئی۔ وقت کا پھیر
باادب بانصیب۔ درست فیصلہ۔ نئی زندگی۔ کایا پلٹ

ان نونہالوں نے بھی ہمیں اچھے اچھے عنوانات بھیجے

☆ کراچی: درود آمنہ فیصل، مختتم الحسن نظامی، محمد عمر رشید، مبشرہ نقوی، حور عین بیگ، بشری زاہد، اریبہ انصاری، عبدالرحمن اظفر، اریبہ اسماعیل، جنید مقبول، اولیس علی، عائشہ الیاس، عمار اللہ خان، شازیہ

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۱۱۷ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۱۱۶ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

انصاری، علیزہ شاہ، اریبہ شیخ، صدق احمد، عریضہ نوید حسانت احمد، سمیعہ توقیر، سائرہ سکندر، محمد بلال صدیقی، لیاہ اعجاز، لائپہ عرفان، مصاص شمشاد غوری، نادیہ اقبال، محمد جہانگیر عباس جوئیہ، صناد بلال، عبدالودود، لبنی جبین، بشری زاہد، اعظم مسعود، رب نواز خان، عمار ایاز احمد صدیقی، مشعل نایاب، زہرہ شفیق، یحییٰ فواد، عریضہ حامد، میزہ خان، سیدہ لاریب جاوید، شفیقہ عمر فاروق، ناعمہ ذوالفقار، محمد سعید ندیم، شہر صدیقی، مریم رحیم، مریم سہیل، احمد رضا خان، وریشہ ندیم، سید فائزہ احمد، سمیعہ شیخ، زونیر خرم فریدی، محمد رحمن، خضاء کاشف، عبدالوہاب زاہد محمود، آمنہ عمران خان، محمد اولیس مدنی، انعم جواد، سندس سہیل، محمد توقیر صدیقی، مہوش حسین، علینا اختر، حلیمہ سعیدی، سہیل احمد بابوزئی، مصطفیٰ ادریس، ماہ نور نصیر، رمشا صابر، کول فاطمہ اللہ بخش، صباح کریم، سیدہ اریبہ بتول، سید محمد موسیٰ، حریم نفیس، ظل عائشہ، فائزہ کامل، یحییٰ ندیم، طاہر مقصود، فضل قیوم خان، محمد معین الدین غوری، علی حسن، محمد نواز بھٹی، محمد فہد الرحمن، بہادر، احتشام، محمد احسن اشرف، جلال الدین اسد، احمد رضا، صفی اللہ، کامران گل آفریدی، رضوان ملک، احمد حسین محمد بادل، محمد عثمان خان، فضل دود خان، زین علی، ملک عاریان، سارہ مسعود، محمد حسن سعید نوید، عبدالرحمن، آمنہ قیصر، طلحہ بن عابد، محمد عثمان شاہد، سیدہ سالکہ محبوب، سیدہ مریم محبوب، حسن رضا قادری، سید محمد فرحان جاوید نجمی، عریضہ حبیب الرحمن، اسماء ارشد، جویریہ عبدالجید، رضی اللہ خان، سید شہنظل علی اظہر، سید باذل علی اظہر، سید عفتان علی جاوید، سیدہ جویریہ جاوید، محمد شافع، مریم علی، ایمان موسیٰ، میمونہ شاہد، سید علی رضا عابدی، ایمن صدیقی، راولپنڈی: تحریم احمد، رومیہ زینب چوہان، ابوذر مہرین، بریرہ متین، وانیا احمد، ردا چوہدری، حسن جہانگیر، قرۃ العین محمود بہاول نگر: انیلا ارشد، طوبی جاوید انصاری، طلحہ اعزاز منیر، مریم اسلم، وزیر آباد: حافظ محمد منیب طارق، بنیش اشرف، شہ لاہور: محمد شادمان صابر، امتیاز علی ناز، انشراح خالد بٹ، عبدالجبار روی انصاری، محمد آصف جمال، محمد عالم بہاول پور: محمد فراز اختر، ایمن نور، صباح گل، قرۃ العین عینی، احمد ارسلان، امامہ عاکفین، مبشرہ حسین، محمد کلیب مسرت، میر پور خاص: توقیر، عتیق الرحمن، فریحہ فاطمہ، دیپاکھتری اوم پرکاش، فیروز احمد، نائلہ خان شیخ، طوبی نور محمد مری، مریم حسین کھیالی، سعد الرحمن، حرا محمود احمد، ہری پور ہزارہ: سہیلہ قریشی،

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۱۱۸ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

جواد الحسن شاہ، سکرٹ: اصباہ کبیر خانزادہ، نمرہ ندیم خانزادہ، اسلام آباد: عیشاء مریم، دعائین، حسنہ سعد، زینب بتول، زینب اعوان، ثمن زاہد، نیاش نور، شہناز شاہد، حیدر آباد: نمرہ کنول اسرار خان، صبیحہ طلعت، مریم عارف خان، مقدس جبار، عائشہ ایمن عبداللہ، سیکنہ محمد اصغر، نوشہ بانو سلیم الدین، شیرد نیہ ثناء، ماہ رخ، مرزا اسفار بیگ، آفاق اللہ خان، صبا سعید، زرشٹ نعیم راؤ، سمیہ ایاز سوی، پشاور: حانیہ شہزاد، محمد حیان، سعید احد ضیغم، میاں محمد حازق، سکھر: عمارہ ثاقب، عائشہ محمد خالد قریشی، ثمرہ مہر، طلحہ احمد صدیقی، سمیہ شیخ، فلزہ مہر، ملتان: محمد حارث لطیف اطہر، محمد أسید خالد، عیشہ عاصم صدیقی، معروفہ شفیق، تحریم فاطمہ، ماہا ظفر، ایمن نواب شاہ: ثوبیہ رانی محمد رمضان مغل، اسفند یار قریشی، مریم عبدالسلام شیخ، محمد طارق قاسم، عزنا مریم طالب قریشی، کوٹ ادو: حسن عبداللہ، فاکہہ شیراز خان، فصیح اللہ، شیخو پورہ: ام ایبہ، محمد احسان الحسن، عروج رانا، ساکھڑ: چوہدری محمد طلحہ رندھاوا، نعمان خالد خانزادہ، علیزہ ناز منصور، جامشورو: حافظہ خدیجہ سعید، حافظ عمر سعید، حافظ معصب سعید، لاہور: کینٹ: محمد احمد عبداللہ، سیدہ عروج فاطمہ، عیبا آصف، کھوگی: خورشید احمد، سرفراز احمد، حسن آرائیں، انک سٹی: شہر بانو، علی عبدالباسط، کاموگی: کنول شہزادی قادری، حسن رضا سردار، حلیمہ نشان، ثوبیہ بیگ سگھ: اولیس شیخ، سعیدہ کوثر مغل، گلگ: فصیح الیاس، بشری صفدر، کواہٹ: محمد وقاص، ڈیرہ اسماعیل خان: محمد معوذ الحسن، خوشاب: محمد قمر الزماں، پنڈ دادن خان: سیدہ مبین فاطمہ عابدی، چنیوٹ: ظہیر احمد، ٹنڈوالہیار: مدثر آصف کھتری، بیلا: محمد الیاس چنا، کشمور: سیف اللہ کھوسو، طارق محمود کھوسو، لیاقت پور: کنزا سہیل، انک: ماہ نور ابرار، بھکر: رانا عبدالمعید، چار سده: رنزا ظفر، سرگودھا: مرتضیٰ خورشید علی، لاہور: محمد ثاقب، گوگرہ: آمنہ افتخار، رحیم یار خان: عبدالرؤف، اوہاڑو: مدثر علی آرائیں، لاڑکانہ: اظہر علی پٹھان، ڈگری: محمد طلحہ مغل، تھاروشاہ: ریان آصف خانزادہ، کھوگی: وقار احمد تنو، نوشہرہ کینٹ: عدن تحریم، ہڈالی: نعیم اللہ، نوشہرو فیروز: بہادر علی گڈانی بلوچ، مظفر گڑھ: محمد عثمان خان، بھمبر: طلحہ بن شیر، فیصل آباد: زینب ناصر، پٹانکمل: محمد عمر آرائیں، حماد ظفر، جازب قریشی، سید محمد عمار حیدر، احمد شاہد، مجاہد الرحمن۔

ماہنامہ ہمدرد نونہال // ۱۱۹ // مارچ ۲۰۱۵ء عیسوی

۱۔	۲۔	۳۔	۴۔	۵۔	۶۔	۷۔	۸۔	۹۔	۱۰۔
۱۱۔	۱۲۔	۱۳۔	۱۴۔	۱۵۔	۱۶۔	۱۷۔	۱۸۔	۱۹۔	۲۰۔

نونہال لغت

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش یہ عمدہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے ہم خاص کیوں ہیں :-

- ☆ ہر ای تبک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو م ایبل لنک
- ☆ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای تبک کا پرنٹ پر یو یو
- ☆ ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ☆ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریخ
- ☆ ہر کتاب کا الگ سیشن
- ☆ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ☆ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

- ☆ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ☆ ہر ای تبک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ☆ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ☆ سپریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ☆ عمران میر بزاز مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریخ
- ☆ ایڈقمری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب فورٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

↔ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

↔ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں www.paksociety.com

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan

Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

آویزاں	آوے ز ا ا	لنکا ہوا۔ لکتا ہوا۔ معلق۔
خاردار	خا ر ز ا ر	کانٹوں کا جنگل۔ جہاں کثرت سے کانٹے ہوں۔
موصوف	م م و ص و ف	وہ جس کی تعریف کی جائے۔
طبع زاد	ط ب ع ز ا د	ذہن سے نکالا ہوا۔ اپنی ایجاد۔ تخلیق۔
ہونہار	ہ و ن ہ ا ر	وہ جس میں لیاقت اور قابلیت کے آثار پائے جائیں۔
مرہون منت	م ر ہ و ن م ن ت	احسان مند۔ ممنون۔ شکر گزار۔
مضطرب	م ض ر ب	بے چین۔ بے قرار۔
جفاکش	ج ف ا ک ش	مشقت اٹھانے والا۔ سختی۔ سختی جھیلنے والا۔
جنجال	ج ن ج ا ل	مصیبت۔ آفت۔ مشکل۔ تکلیف دہ آدمی۔
خاطر خواہ	خ ا ط ر خ و ا ہ	مرغوب۔ دل پسند۔ خواہش کے مطابق۔
انبساط	ا م ب س ا ط	پھیلا۔ کشادہ ہونا۔ خوشی۔ شادمانی۔ فرحت۔
استطاعت	ا س ت ط ا ع ت	مقدور۔ بساط۔ حیثیت۔ طاقت۔
رخشدہ	ر خ ش ن د ہ	چمکیلا۔ روشن۔ چمکنے والا۔
ترغیب	ت ر غ ی ب	لاج دلانا۔ رغبت دلانا۔ شوق۔ خواہش۔
زد	ز د	چوٹ۔ نشانہ۔ صدمہ۔
لرزش	ل ر ز ش	رعشہ۔ کپکپی۔ تھر تھراہٹ۔
اثاثہ	ا ث ا ث ہ	سامان۔ سرمایہ۔ پونجی۔
کاوش	ک ا و ش	کھوج لگانا۔ کھودنا۔ تلاش۔ جستجو۔ کرید۔

